آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے
اس لئے چاہیے کہ اچھا نام رکھے (الحدیث)

راہنمائے اسلامی نام

اسلامی نام رکھنے سے متعلق ایک جدید اور جامع کتاب

مؤلف مولانا مفتی عبدالشکور قاسمی رحمۃ اللہ علیہ

ترتیب و اضافہ
عبدالصبور علوی

www.besturdubooks.wordpress.com

بیت السلام
کراچی لاہور

وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰہِ تَعَالٰی تِسْعَۃٌ وَتِسْعِیْنَ اِسْمًا مَّنْ اَحْصٰہَا دَخَلَ الْجَنَّۃَ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ تعالیٰ کے ننانوے (صفاتی) نام ہیں۔ جس شخص نے ان ناموں کو یاد کیا وہ (ابتدا ہی میں بغیر عذاب کے) جنت میں داخل ہوگا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

راہنمائے اسلامی نام

اسلامی نام رکھنے سے متعلق ایک جدید اور جامع کتاب

مؤلف

مولانا مفتی عبد الشکور قاسمی رحمۃ اللہ علیہ

ترتیب و اضافہ

عبد الصبور علوی

www.besturdubooks.wordpress.com

بیت السلام

کراچی، لاہور

قرآن وسنت اور مستند علمی کتب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں
- طبع جدید ستمبر 2009ء
- ناشر بیت السلام
- پرنٹر اے جی آرٹ پریس فون:021-2038163

www.besturdubooks.wordpress.com

بیت السلام
کراچی، لاہور

زہرا اپارٹمنٹ، ایس بی-۴
نزد عسکری پارک، مین یونیورسٹی روڈ، گلشن اقبال، بلاک-۱۲، کراچی
فون:021-5434139 موبائل:0321-3817119

غزنی اسٹریٹ، یوسف مارکیٹ، اردو بازار، لاہور
موبائل: 0321-4545028, 0300-4274916

انتساب

اسلامی ناموں سے محبت کرنے والوں کے نام

عبدالشکور قاسمیؒ

www.besturdubooks.wordpress.com

عرض مرتب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ " آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے اس لئے چاہئے کہ اچھا نام رکھے"۔ دوسری جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہذا اچھے نام رکھو"۔ آپ ﷺ کے ان ارشادات عالیہ سے ناموں کی اہمیت اور نام رکھنے کے سلسلے میں والدین پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

اسلامی ناموں سے متعلق لکھی گئی کتب جو موجود ہیں ان میں اچھی بھی ہیں لیکن اکثر کتابوں میں بعض نام مشرکانہ اور غیر اسلامی شامل کر دیئے گئے ہیں اور معنوی لحاظ سے بھی ایسے نام شامل کئے گئے ہیں جن کے معنی سانپ، بچھو، کمینہ، بدبخت، ناچنے والی اور منحوس ہیں العیاذ باللہ۔

اس لئے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو صحیح معنوں میں اسلامی ناموں کی طرف راہنمائی کرے۔ مولانا مفتی عبدالشکور قاسمیؒ نے اس بات کے پیش نظر یہ کتاب ترتیب دی ہے اس میں اسماء الحسنٰی اسماء النبی ﷺ، اسماء صحابہ کرامؓ، صحابیہ کرامؓ، تابعینؒ، محدثینؒ، مجاہدینؒ اسلام اور بزرگانِ دینؒ کے مبارک نام اور معنی کے لحاظ سے بعد از تحقیق اچھے نام جمع کئے ہیں۔ جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اللہ جل شانہ کے فضل سے اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور ساتھ ہی اس کے آخری باب میں اضافے کا بھی تقاضہ ہوا (راقم کے بڑے بھائی) مؤلف کتاب مولانا عبدالشکور قاسمیؒ اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتے تھے کہ ان کا وقت مقررہ آن پہنچا (اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیہِ رٰجِعُون) تو بندہ ناچیز نے توکلت علی اللہ ان کی تصانیف کی اشاعت اور ان کے ادھورے کام کی تکمیل کا کام اپنے ذمہ لیا اور اس کتاب میں کمپوزنگ اور ترتیب میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کے ساتھ آخری باب میں تقریباً اڑھائی ہزار ناموں کا کتاب کے تحقیقی معیار کے مطابق اضافہ کیا۔ اللہ جل شانہ کے فضل اور توفیق سے اس کام کی تکمیل ہوئی ولِلّٰہِ الحمد۔

اے ربِ کریم اسے محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مصنف کے لئے اور اس ناچیز کے لئے ذخیرہ آخرت بنا۔ جن احباب نے اس کتاب کی طباعت کے مختلف مراحل میں معاونت کی انہیں دارین میں جزائے خیر عطا فرما آمین یاربّ العالمین۔

عبدالصبور علوی
مدیر: بیت السلام

فہرست

- انتساب 5
- عرض مرتب 7
- فہرست 8
- ابتدائیہ 10

الباب الاول

- اسماء الحسنٰی 16
- امام الانبیاء حضرت محمدؐ کے اسماء مبارک 19
- چند انبیاء کرام کے نام 20

الباب الثانی

- خلفاء کرام کے نام 22
- اصحاب بدر کے نام 22
- چند مشہور صحابہ کرام کے نام 32
- آنحضرت ﷺ کے اہل بیت کے نام 60
- چند صحابیہ عورتوں کے نام 61

الباب الثالث

- چند تابعین کرام کے نام 73
- چند تابعین عورتوں کے نام 82
- چند بزرگ محدثین، اور مجاہدین کے نام 83

الباب الرابع

- اسماء الحسنٰی کے ساتھ نام رکھنا 90
- نبی کریمؐ کے نام مبارک ''محمدؐ'' کے ساتھ نام رکھنا 93
- حضرت محمدؐ کے نام مبارک ''احمدؐ'' کیساتھ نام رکھنا 96

الباب الخامس

- بچوں کے معنی کے اعتبار سے اچھے نام 99
- بچیوں کے معنی کے اعتبار سے اچھے نام 140
- بچوں کے متعلق چند آداب کا بیان 179
- بچوں کے متعلق چند احتیاطی تدابیر 183
- بچوں کا ختنہ کرانا اسلامی شعار اور فریضہ ہے 185

عرضِ مولّف

الحمد للّٰہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ اٰلہٖ واصحابہٖ اجمعین ومن تبعھم باحسان الی یوم الدین .

اما بعد

عن عبداللّٰہ بن عمر قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ان احب اسمائکم الی اللّٰہ عبداللّٰہ و عبدالرحمن

(رواہ مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ناموں میں سے اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔

والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھیں۔اس لیئے ان کی رہنمائی کیلئے آج کل ناموں کے سلسلہ میں کچھ غلط رواج نکل پڑے ہیں یہاں نام رکھنے سے متعلق ہدایات و سنتیں اور کچھ نام بھی نقل کیے جائیں گے۔

جیسے اللہ تعالیٰ شانہ کے اسماء حسنٰی اور حضرات انبیاء علیہم السلام اور خاتم الانبیاء والمعصومین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند مبارک نام آپؐ کے اہل بیت کے نام، اصحاب بدرین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کرامؒ نیز صحابیہ عورتوں اور تابعین عورتوں کے ناموں میں سے چند ایک نام درج کیے جائیں گے۔ دیگر کچھ اور نام بھی جو محدثین، مجاہدین، بزرگان دین یا معنوی اعتبار سے اچھے ہیں نقل کیے جائیں گے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم

اجمعین کے نام ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔صحابہ بدرین کے مبارک نام استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی مرتبہ کتاب ''اسماء البدرین'' سے نقل کئے گئے ہیں (اور بعض دوسری کتابوں سے بھی) اس رسالہ میں حضرت مفتی شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

''اسماء بدرین کی تعداد مستند کتب حدیث میں تین سو تیرہ سے تین سو انیس تک منقول ہے۔ مگر زیر نظر کتاب میں آپ اس تعداد سے بہت زیادہ نام پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ناموں میں اختلاف ہے، احتیاطاً مختلف فیہ سب ناموں کو لے لیا گیا ہے اور بعض ناموں میں اس لئے تکرار ہوگیا ہے کہ وہ کسی جگہ اصل نام سے اور کسی جگہ کنیت سے لکھے ہوئے ہیں۔اس رسالہ میں احتیاطاً سب کو جمع کرلیا گیا ہے تاکہ کسی نام کے متروک ہونے کا احتمال نہ رہے یا مکرر ہو جانے میں ظاہر ہے کہ کوئی نقصان نہیں۔

صحابہ کرام اور صحابیہ عورتوں کے نام ایک نام سے مختلف کنیتوں کے ساتھ سیکڑوں نام تھے۔ اس کتاب میں صرف ایک نام نقل کیا گیا ہے ورنہ کتاب کئی جلدوں میں آجاتی۔

حدیث بالا میں جو عبداللہ اور عبدالرحمٰن کے پسندیدہ ہونے کا ذکر ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس میں بندے کی عبدیت کا اعلان ہے اور یہ چیز جس میں عبدیت کا اظہار ہو اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں نام انبیاء کے ناموں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں (مظاہر حق)

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام اس سے مستثنٰی ہیں۔

ایک حدیث میں فرمایا سموا باسماء الانبیاء (ابوداؤد) یعنی پیغمبروں کے ناموں پر (اپنے بچوں کے) نام رکھو۔ چنانچہ خود آپ ؐ نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔اس کے علاوہ آپ ؐ نے بچوں کے ایسے نام بھی رکھے جو معنوی لحاظ سے اچھے ہوں اگرچہ وہ پیغمبروں کے معروف ناموں میں سے نہیں۔مثلاً آپ ؐ نے اپنے صاحبزادوں کے نام عبداللہ اور قاسم بھی رکھا ۔چنانچہ ابوالقاسم آپ ؐ کی کنیت انہی کے انتساب سے تھی۔

اب نام رکھنے سے متعلق چند ایک ہدایات وسنتیں نقل کی جاتی ہیں۔

(۱) حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بدل کر ان کے عوض اچھے نام رکھ دیا کرتے تھے (ترمذی) ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس میں ایک شخص تھا جس کو "اصرام" کہتے تھے۔آپؐ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے۔اس نے کہا مجھ کو اصرام کہتے ہیں۔آپؐ نے فرمایا (نہیں) بلکہ آج سے تمہارا نام زرعہ ہے۔اس روایت کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔ نیز انہوں نے (بطریق وتخلیق) یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص،عزیز،عتلہ،شیطان،حکم ،غراب ،حباب اورشہاب ناموں کو بدل دیا تھا۔

(ف) اصرام: اصرام کے معنی کاٹنے والا کترانے والا کے ہیں ۔یہ نام نامناسب تھا۔

عاص: عاص عاصی کا مخفف ہے اور نافرمانی پر دلالت کرتا ہے ۔جب کہ مومن مسلمان کی یہ صفت نہیں لہذا عاص یا عاصیہ نام نہ رکھیں۔

عزیز: چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم پاک ہے لہٰذا عبدالعزیز نام رکھنا تو مناسب ہے لیکن صرف عزیز نام غیر موزوں ہے۔

عتلہ: عتلہ کے معنی ہیں غلظت وشدت۔

شیطان: شطن سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔

حکم: حاکم کا مبالغہ ہے اور حقیقی حاکم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔لہٰذا عبدالحکم نام تو صحیح ہے لیکن صرف حکم کہنا غیر موزوں ہے۔

غراب: غراب کوے کو کہتے ہیں اس کے معنی دوری کے ہیں

حباب: حباب شیطان کا نام ہے اور سانپ کو بھی حباب کہتے ہیں۔

شہاب: شہاب آگ کے اس شعلہ کو کہتے ہیں جو فرشتے شیطانوں پر مارتے ہیں۔البتہ شہاب کی اضافت دین کی طرف کی جائے تو صحیح ہے، جیسے شہاب الدین (ماخوذ از مظاہر حق ج۴)

(۲) بعض لوگ بچے کا نام تجویز کرتے وقت قرآن مجید سے نام کے حروف نکال کر اور بچے کے نام کے حروف کے اعداد اور تاریخ پیدائش کے اعداد کو آپس میں ملا کر نام رکھتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے کیونکہ قرآن وحدیث میں علم الاعداد پر اعتماد کی اجازت نہیں ہے

البتہ تاریخی نام رکھنا جس کے ذریعہ سن پیدائش محفوظ ہو جائے تو یہ صحیح ہے۔

(۳) بعض لوگ پیار و اظہار محبت کی غرض سے اپنے بچوں کے اصلی ناموں کے علاوہ ایک اور عرفی نام رکھتے ہیں۔ مثلاً محمد اسماعیل عرف پیارو ، عبدالرحمٰن عرف مانی ، عبدالقادر عرف صابو ، عبدالباسط عرف پپی وغیرہ۔ یہ نا مناسب بات ہے۔

(۴) بعض لوگ قرآن مجید کھول کر ساتویں سطر کی ابتدا میں جو حرف ہوگا اسی حرف سے نام رکھتے ہیں۔ مثلاً حرف '' ش '' نکلا تو نام '' ش '' سے شکیل یا شکیلہ ، شمیم الدین یا شیماں رکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

(۵) بعض لوگ خوب صورت اشیاء کے نام بھی بچوں کے لیے رکھتے ہیں جیسے ، ثریا ، قمر ، مہر ، بدر ، گلناز ، گلاب ، شمیم ، نسیم ، کوثر ، تسنیم وغیرہ۔ اگرچہ یہ نام برے نہیں مگر ان سے مذہبی تہذیب و اخلاق کی جھلک نظر نہیں آتی۔ البتہ ان مفرد ناموں کو مرکب کر دیا جائے تو حرج نہیں جیسے نسیم احمد ، کوثر احمد ، شمیم الدین ، گلاب محمد ، تسنیم الدین وغیرہ۔

(۶) بچیوں کے نام رکھتے ہوئے کسی نام کے آخر میں خاتون ، آرا ، بیگم ، سلطانہ ، بانو ، بی بی ، خانم ، وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً امیر خاتون ، عائشہ بانو ، سائرہ خانم ، نورین آراء وغیرہ۔

(۷) دو مفرد ناموں کو ملا کر ایک نام رکھنا بھی صحیح ہے۔ مثلاً رابعہ زینت ، زرینہ احسان ، ثمرین نشاط ، مدیحہ اقبال ، نزہت جمال ، حمیرا تسکین وغیرہ۔

(۸) بعض لوگ بچیوں کے اچھے ناموں کو بگاڑ کر بولتے ہیں۔ مثلاً میمونہ کو ممو ، مجیداں کو مجو ، ناجیہ کو نجو ، تسنیم کو تسی ، خورشیدہ کو شیدہ وغیرہ۔ اس طرح سے کہہ کر پکارنا غلط ہے۔

(۹) بعض بچے اپنی ماں کو بھابھی ، باجی یا آپا اور باپ کو بھائی مثلاً کسی کے باپ کا نام معاویہ یا عبداللہ ہے ، اسے معاویہ بھائی ، عبداللہ بھائی وغیرہ کہہ کر پکارنا یا وڈیرہ یا وڈیری کہہ کر پکارنا یہ غلط اور والدین کی توہین بھی ہے۔ لہٰذا اس سے احتراز ضروری ہے۔

(۱۰) بعض لوگ عبدالرحمٰن ، عبدالخالق ، عبدالقدوس ، ناموں سے لفظ '' عبد '' کو چھوڑ کر صرف رحمٰن ، خالق ، اور قدوس ، رزاق ، غفار ، قادر وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس طرح '' عبد '' کا لفظ ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دوسروں کو پکارنا حرام اور ناجائز ہے۔

(۱۱) بعض لوگ اپنی اولاد کے لیے اچھے نام تو رکھتے ہیں مگر مقامی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے پکارتے یا لکھتے ہیں جو بالکل مہمل اور غیر ضروری حرکت ہے۔ جیسے تامل ناڈ میں شمس الدین کو کدورن کہہ کر پکارتے ہیں یا عبدالرحمٰن کو عبدل رگمال تامل میں لکھتے ہیں۔ یہ غلط اور ناجائز ہے اور مذہب کی خصوصیات سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔

(۱۲) اگر کسی کا نام محمد عمر، محمد معاویہ یا محمد حسین ہے تو لفظ محمد پر "ﷺ" کا نشان نہیں لگانا چاہئے کیونکہ یہ اس شخص کے نام کا تبرکاً جز ہوتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا نام نہیں ہوتا۔

(۱۳) بعض لوگ اپنے بچوں کے وہی نام رکھ دیتے ہیں جن مہینوں میں وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جیسے رمضانی، شعبانی وغیرہ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔

(۱۴) بعض لوگ ستارگان دیکھ کر مثلاً ستارہ عطارد، برج سنبلہ پر نام رکھا جاتا ہے اور پھر پتھر لاجوردی، نیلم، زرقون وغیرہ پہنانے کے لئے جاتا ہے۔ یہ شرک اور عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان کو ان چیزوں پر اعتماد کرنا حرام ہے۔

(۱۵) بعض پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ بھی غلط ناموں کے عادی ہوگئے ہیں جیسے عبدالمصطفیٰ ﷺ، عبدالحسن، عبدالحسین، عبدالکعبہ، عبدالعثمان جیسے نام عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ کیا اس طرح ہم لوگ (جن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں) شرک کے مرتکب نہیں ہو رہے۔ لہٰذا عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہی کسی نام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جیسے عبداللہ، عبد الرحمٰن، عبدالغفور، عبدالصبور وغیرہ۔ کیونکہ مذہب اسلام میں اس قسم کے ناموں کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اور سلف صالحین کے ناموں کا رکھنا بھی باعث خیر و برکت اور شعار ملت ہے۔

(۱۶) پرویز نام رکھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ پرویز شاہ ایران کا نام تھا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کر دیا تھا اور ہمارے زمانہ میں مشہور منکر حدیث کا نام بھی پرویز ہی تھا۔ لہٰذا ایسا نام نہیں رکھنا چاہئے۔

(۱۷) اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے نام اچھے رکھے جائیں۔ لہٰذا اپنی

اولاد کا نام غیر اسلامی ہندوؤں، کافروں جیسا نام رکھنا جائز نہیں۔

(۱۸) اگر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ کسی لقب یا تخلص کو اختیار کرتا ہے (بشرطیکہ وہ بذات خود غلط نہ ہو) تو یہ جائز ہے۔

(۱۹) کنیت کو بطور نام استعمال کرنا صحیح بلکہ بہتر ہے۔ مثلاً ابوبکر، ابوعمر، ابوعبیدہ وغیرہ نام رکھنا صحیح بلکہ بہتر ہے۔

(۲۰) واضح رہے کہ جو بچہ زندہ پیدا ہوا ہو اور چند لمحوں کے بعد مر جائے تو نام اس کا بھی رکھنا چاہئے۔

اب چند اسلامی نام پیش کئے جاتے ہیں جس سے آپ کو بچوں کے صحیح نام رکھنے میں کافی حد تک مدد ملے گی اس کے علاوہ کوئی اور نام رکھنا ہو تو اپنے بزرگوں اور علماء دین سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ بچوں کے متعلق بعض آداب کا بیان جو اہم اور ضروری ہیں، کتاب کے آخر میں نقل کئے جائیں گے۔

احقر

ابوعمر عبدالشکور قاسمی

www.besturdubooks.wordpress.com

اسماء مبارک

اسماء الحسنٰی، اسماء النبی ﷺ، اسماء الانبیاء

اسماء الحسنٰی

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ :

قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ان للّٰہ تسعۃ و تسعین اسمًا مائۃ الا واحد من احصاھا دخل الجنۃ (بخاری ومسلم)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ تعالیٰ کے ننانوے (صفاتی) نام ہیں یعنی ایک کم سو۔ جس شخص نے ان ناموں کو یاد کیا وہ (ابتداہی میں بغیر عذاب کے) جنت میں داخل ہوگا۔

اس حدیث شریف میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں تو اس سے حصر یا کوئی تحدید مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف اتنے ہی نام ہیں کیونکہ جس طرح اللہ جل شانہٗ کے صفات و کمالات لامحدود ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفات و کمالات سے متصف نام بھی لامحدود ہیں۔

البتہ جو شخص ان ناموں کو یاد کرے اور اس پر ایمان لائے اور ان ناموں کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا یعنی اس پر عمل کرے تو یہ چیزیں اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کی شرح مظاہر حق میں ہے کہ لفظ ''احصاھا'' کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں ان کو پڑھا یا ایمان لایا۔ یا ان کے معانی جانے اور ان معانی پر عمل کیا۔ (مظاہر حق جدید۔ ج۲، ص ۲۹۸)

قال الله تعالیٰ ولله الاسماء الحسنیٰ فادعوه بها وقال النبی صلی الله علیه وسلم ان لله تعالیٰ تسعة وتسعین اسما من احصاها دخل الجنة وفی روایة من حفظها هو الله الذی

لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر

الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب

الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض

الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم

العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور

الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب

الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم

الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل

القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ

المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد

الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر

المقدم المؤخر الاول الآخر الظاهر الباطن

الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو

الرؤف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني

المغني المانع الضار النافع النور الهادي

البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث میں ان ننانوے ناموں کے علاوہ بھی کچھ نام اور منقول ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ نام بھی آتے ہیں۔

الرب - الاکرم - الحافظ - الخلاق - السائر - الستار - الشاکر - العادل - لغالب - الناظر- الالق - العلام - الاعلی - القدیر - القریب - القاهر - الکفیل - الکافی - المنیر - المحیط - المالک - المولٰی - النصیر - احم الحاکمین - ارحم الراحمین - احسن الخالقین - ذولفضل - ذوالطول - ذوالقوۃ - ذوالمعارج - ذوالعرش - رفیع - الدرجات - قابل التوب - الفعال المایرید - مخرج الحی من المیت -

اور احادیث میں یہ نام بھی آتے ہیں۔

الحنان - المنان - المغیث (ماخوذ از مظاہرجدید ج ۲، ص ۵۲۷)

امام الانبیاء حضرت محمد ﷺ کے اسماء مبارک

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

مُحَمَّدٌ	اَحْمَدُ	حَامِدٌ	مَحْمُوْدٌ	قَاسِمٌ	عَاقِبٌ
فَاتِحٌ	شَاهِدٌ	حَاشِرٌ	رَشِيْدٌ	مَشْهُوْدٌ	بَشِيْرٌ
نَذِيْرٌ	دَاعٍ	شَافٍ	هَادٍ	مُهْدٍ	مَاحٍ
مُنْجٍ	نَاهٍ	رَسُوْلٌ	نَبِيٌّ	اُمِّيٌّ	تِهَامِيٌّ
هَاشِمِيٌّ	اَبْطَحِيٌّ	عَزِيْزٌ	حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ	رَءُوْفٌ	رَحِيْمٌ
طٰهٰ	مُجْتَبٰى	طٰسٓ	مُرْتَضٰى	حٰمٓ	مُصْطَفٰى
يٰسٓ	اَوْلٰى	مُزَّمِّلٌ	وَلِيٌّ	مُدَّثِّرٌ	مَتِيْنٌ
مُصَدِّقٌ	طَيِّبٌ	نَاصِرٌ	مَنْصُوْرٌ	مِصْبَاحٌ	آمِرٌ
حِجَازِيٌّ	نِزَارِيٌّ	قُرَشِيٌّ	مُضَرِيٌّ	نَبِيُّ التَّوْبَةِ	حَافِظٌ
كَامِلٌ	صَادِقٌ	اَمِيْنٌ	عَالِمٌ	كَلِيْمُ اللّٰهِ	حَبِيْبُ اللّٰهِ
نَجِيُّ اللّٰهِ	صَفِيُّ اللّٰهِ	خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ	حَسِيْبٌ	مُجِيْبٌ	شَكُوْرٌ
مُقْتَصِدٌ	رَسُوْلُ رَحْمَةٍ	قَوِيٌّ	حَفِيٌّ	مَامُوْنٌ	مَعْلُوْمٌ
حَقٌّ	مُبِيْنٌ	مُطِيْعٌ	رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ	اَوَّلٌ	آخِرٌ
ظَاهِرٌ	بَاطِنٌ	نَبِيُّ الرَّحْمَةِ	يَتِيْمٌ	كَرِيْمٌ	حَكِيْمٌ
خَاتَمُ الرُّسُلِ	سَيِّدٌ	سِرَاجٌ	مُنِيْرٌ	مُحَرَّمٌ	مُكَرَّمٌ
اِمَامٌ	مُذَكِّرٌ	مُطَهَّرٌ	قَرِيْبٌ	خَلِيْلٌ	شَفِيْعٌ
جَوَّادٌ	خَاتَمٌ	عَادِلٌ	شَهِيْرٌ	شَهِيْدٌ	رَسُوْلُ الْمَلَاحِمِ

چند انبیاء علیہم السلام کے اسماء مبارک

حضرت آدم علیہ السلام

حضرت ذوی الکفل علیہ السلام
حضرت یونس علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام
حضرت زکریا علیہ السلام
حضرت یحییٰ علیہ السلام
حضرت ایوب علیہ السلام
حضرت لوط علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت شعیب علیہ السلام
حضرت ہارون علیہ السلام
حضرت طالوت علیہ السلام
حضرت الیاس علیہ السلام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت شیث علیہ السلام
حضرت ادریس علیہ السلام
حضرت نوح علیہ السلام
حضرت ہود علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسماعیل علیہ السلام
حضرت اسحاق علیہ السلام
حضرت یعقوب علیہ السلام
حضرت صالح علیہ السلام
حضرت الیسع علیہ السلام
حضرت داؤد علیہ السلام
حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت عزیر علیہ السلام

دو منفرد ناموں کو ملا کر ایک نام بھی رکھ سکتے ہیں مثلاً

محمد ابراہیم	صالح داوٗد	یعقوب عیسیٰ
شعیب ادریس	موسیٰ ہارون	یونس طالوت
محمد یوسف	زکریا لوط	محمد الیاس
سلیمان یوسف	ہود الیاس	محمد عزیر
محمد اسماعیل	محمد ایوب	محمد یونس

تین منفرد ناموں کو ملا کر ایک نام بھی رکھ سکتے ہیں مثلاً

محمد ہارون یوسف	محمد شیث یونس	یعقوب صالح داوٗد
محمد ابراہیم یحییٰ	ابراہیم ایوب یونس	عیسیٰ آدم یحییٰ
محمد ادریس زکریا	ابراہیم یوسف ہارون	نوح ادریس یوسف
محمد یعقوب صالح	سلیمان یوسف ایوب	موسیٰ عزیر ہارون
محمد آدم عیسیٰ	اسماعیل یونس ہارون	محمد یوسف عزیر

صحابہ کرامؓ کے نام مبارک

خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر کے علاوہ دیگر صحابہ وصحابیہ کرام کے نام، ان ناموں کے معنی اسلیے نہیں دیے گئے کہ ان ناموں کا حضور ﷺ سے تائید یافتہ ہونا کافی ہے۔

چھ صحابہ کرامؓ جو خلیفہ منتخب ہوئے

(۱) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
(۲) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
(۳) حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
(۴) حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ
(۵) حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ
(۶) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

عشرہ مبشرہ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ
حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ
حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت ابی عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ عنہ

اصحاب بدر رضی اللہ عنہم

ا

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ
حضرت الاخنس بن خبیب رضی اللہ عنہ
حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ	حضرت ایاس بن بکیر رضی اللہ عنہ
حضرت ایاس بن الاوس رضی اللہ عنہ	حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ
حضرت انیس بن قتادة رضی اللہ عنہ	حضرت انس بن معاذ رضی اللہ عنہ
حضرت ابی ابن معاذ رضی اللہ عنہ	حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ
حضرت اسعد بن یزید رضی اللہ عنہ	حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ
حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ	حضرت اوس بن خولی رضی اللہ عنہ

ب

حضرت بلال ابن رباح المہاجر رضی اللہ عنہ	حضرت بجیر ابی بجیر رضی اللہ عنہ
حضرت بحاث بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ	حضرت بسبسہ بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت براء بن معرور رضی اللہ عنہ	حضرت بشر بن سعد رضی اللہ عنہ
حضرت بشیر بن البراء رضی اللہ عنہ	

ت

حضرت تمیم مولیٰ بنی غنم ابن السلم رضی اللہ عنہ	حضرت تمیم مولیٰ خراش رضی اللہ عنہ
حضرت تمیم بن یعار رضی اللہ عنہ	

ث

حضرت ثقف بن عمرو رضی اللہ عنہ	حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ
حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ عنہ	حضرت ثابت بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ
حضرت ثابت بن خالد رضی اللہ عنہ	حضرت ثابت خنسآء رضی اللہ عنہ
حضرت ثابت بن هزال رضی اللہ عنہ	حضرت ثابت بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت ثعلبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ	حضرت ثعلبہ بن غنمة رضی اللہ عنہ

ج

حضرت جبر بن عتیک رضی اللہ عنہ	حضرت جبیر بن یاسر رضی اللہ عنہ
حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ	حضرت جبار بن صخر رضی اللہ عنہ

حضرت جابر بن خالد رضی اللہ عنہ
حضرت جبیر بن ایاس رضی اللہ عنہ
حضرت جبلۃ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ

ح

حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ
حضرت حاطب بن ابی بلتعۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حاطب بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت حصین بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن انس رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن حاطب رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن اوس بن رافع رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن خزمۃ خزرجی رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن ابی خزمۃ اوسی رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن عرفجۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن قیس خزرجی رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن عتیک رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن سراقہ شہید رضی اللہ عنہ
حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ
حضرت حارثہ بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت حارث خزمۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن صمۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن قیس اوسی رضی اللہ عنہ
حضرت حریث بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ
حضرت حبیب بن اسود رضی اللہ عنہ
حضرت حرا بن ملحان رضی اللہ عنہ
حضرت حمزہ بن حمیرہ رضی اللہ عنہ

خ

حضرت خالد بن بکیر رضی اللہ عنہ
حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ
حضرت خباب مولیٰ عتبہ رضی اللہ عنہ
حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ
حضرت خزیم بن فاتک رضی اللہ عنہ
حضرت خولی بن خولی رضی اللہ عنہ
حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ
حضرت خداش بن قتادۃ رضی اللہ عنہ
حضرت خراش بن صمۃ رضی اللہ عنہ
حضرت خارجۃ بن حمیرا رضی اللہ عنہ
حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت خلاد بن سویدا رضی اللہ عنہ
حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ
حضرت خلاد بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت خلاد بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت خالد بن قیس رضی اللہ عنہ

حضرت خلیدۃ بن قیس رضی اللہ عنہ	حضرت خلیفہ بن عدی رضی اللہ عنہ
حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ	حضرت خبیب بن اساف رضی اللہ عنہ

د ذ

حضرت دکین بن سعد رضی اللہ عنہ	حضرت ذی الشمالین بن عبد عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت ذکوان بن عبد القیس رضی اللہ عنہ	

ر

حضرت ربیعۃ بن اکثم رضی اللہ عنہ	حضرت ربعی بن رافع رضی اللہ عنہ
حضرت رفاعۃ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ	حضرت رافع بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت رافع بن عنجدۃ رضی اللہ عنہ	حضرت رافع بن معلّی شہید رضی اللہ عنہ
حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ	حضرت رافع بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت رفاعۃ بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت رفاعۃ بن رافع رضی اللہ عنہ
حضرت رفاعۃ بن عمرو رضی اللہ عنہ	حضرت راشد بن الملا رضی اللہ عنہ
حضرت ربیع بن الایاس رضی اللہ عنہ	حضرت رحیلۃ بن ثعلبۃ رضی اللہ عنہ

ز

حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ	حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ	حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ
حضرت زیاد بن السکن رضی اللہ عنہ	حضرت زیاد بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ	حضرت زید بن مزین رضی اللہ عنہ
حضرت زید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ	حضرت زید بن ودیعۃ رضی اللہ عنہ
حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ	

س

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت سائب بن مطعون رضی اللہ عنہ
حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ
حضرت سنان بن ابی سنان رضی اللہ عنہ
حضرت سویط بن سعد المہاجر رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن خولۃ رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت سلامۃ بن سلمہ رضی اللہ عنہ
حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ
حضرت سہل بن عتیک رضی اللہ عنہ
حضرت سہیل بن رافع رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن عثمان رضی اللہ عنہ
حضرت سماک بن سعد رضی اللہ عنہ
حضرت سراقہ بن کعب رضی اللہ عنہ
حضرت سلیم بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت سلیم بن ملحان رضی اللہ عنہ
حضرت سبیع بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت سنان بن صیفی رضی اللہ عنہ

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
حضرت سائب بن عثمان رضی اللہ عنہ
حضرت سبرۃ بن فاتک رضی اللہ عنہ
حضرت سہیل بن وھب رضی اللہ عنہ
حضرت سعد مولی حاطب رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن خیثمۃ شہید رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ
حضرت سلمۃ بن ثابت رضی اللہ عنہ
حضرت سلمۃ بن اسلم رضی اللہ عنہ
حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ
حضرت سہل بن رافع رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن سہیل رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ
حضرت سفیان بن بشر رضی اللہ عنہ
حضرت سراقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت سلیم بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت سلیم بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت سلیط بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت سواد بن درن رضی اللہ عنہ

حضرت سواد بن غزیۃ رضی اللہ عنہ — حضرت سائب بن خلاد رضی اللہ عنہ

ش ص ض

حضرت شجاع بن وھب رضی اللہ عنہ — حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ
حضرت شریک بن انس رضی اللہ عنہ — حضرت صفوان بن وھب رضی اللہ عنہ
حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ — حضرت صبیح مولٰی ابی العاص رضی اللہ عنہ
حضرت صیفی بن سواد رضی اللہ عنہ — حضرت ضحاک بن حارثہ رضی اللہ عنہ
حضرت ضحاک بن عبد عمرو رضی اللہ عنہ — حضرت ضمرۃ بن عمرو رضی اللہ عنہ

ط ظ

حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ — حضرت طلیب بن عمیر رضی اللہ عنہ
حضرت طفیل حارث رضی اللہ عنہ — حضرت طفیل بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت طفیل بن مالک رضی اللہ عنہ — حضرت طفیل بن نعمان رضی اللہ عنہ
حضرت ظہیر بن رافع رضی اللہ عنہ

ع

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ — حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ — حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ
حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ — حضرت عاقل بن البکیر رضی اللہ عنہ
حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ — حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
حضرت عمیر بن عوف رضی اللہ عنہ — حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ — حضرت عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن مخزمہ رضی اللہ عنہ — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ عنہ — حضرت عیاض بن زہیر رضی اللہ عنہ

حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ
حضرت عقبہ بن وھب رضی اللہ عنہ
حضرت عامر بن البکیر رضی اللہ عنہ
حضرت عامر بن فہیرۃ رضی اللہ عنہ
حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت عمرو بن ابی سرح رضی اللہ عنہ
حضرت عامر بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت عویم بن ساعدۃ رضی اللہ عنہ
حضرت عبید بن ابی عبید رضی اللہ عنہ
حضرت عبدالرحمٰن بن جبر رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن شریک رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ
حضرت عاصم بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ
حضرت عمیر بن حمام شہید رضی اللہ عنہ
حضرت عمیر بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت عبید بن ابی عبید رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن حق رضی اللہ عنہ
حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ عنہ
حضرت عامر بن سلمۃ رضی اللہ عنہ
حضرت عامر بن مخلد رضی اللہ عنہ
حضرت عائذ بن ماعض رضی اللہ عنہ
حضرت عصمۃ بن حصین رضی اللہ عنہ

حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ
حضرت عکاشۃ بن محصن رضی اللہ عنہ
حضرت عامر بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ
حضرت عمر بن سراقہ رضی اللہ عنہ
حضرت عمیر بن معبد رضی اللہ عنہ
حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ عنہ
حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ
حضرت عبید نہان رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ
حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ
حضرت عوف بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت عمیر بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت عمارۃ بن حزم رضی اللہ عنہ
حضرت عبید بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن حمیری رضی اللہ عنہ
حضرت عمرو بن ایاس رضی اللہ عنہ
حضرت عمرو بن طلق رضی اللہ عنہ
حضرت عمرو بن ثعلبۃ رضی اللہ عنہ
حضرت عامر بن امیہ رضی اللہ عنہ
حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ
حضرت عاصم بن عکی رضی اللہ عنہ
حضرت عصیمۃ بن الاشجعی رضی اللہ عنہ

حضرت عبس بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت عباد بن قیس بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت عباد بن قیس بن عبشۃ رضی اللہ عنہ
حضرت عبادۃ بن الخشخاش رضی اللہ عنہ
حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن الربیع رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن عبد مناف رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن قیس بن صیفی رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن قیس بن خلدۃ رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن عرفطۃ رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن ثعلبۃ رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن زید بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن نعمان رضی اللہ عنہ
حضرت عجلان بن نعمان رضی اللہ عنہ
حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت عتبہ بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ
حضرت عتبہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت عقبۃ بن عثمان رضی اللہ عنہ
حضرت عقبہ بن وھب رضی اللہ عنہ
حضرت عدی بن ابی رغباء رضی اللہ عنہ
حضرت عطیۃ بن نویرہ رضی اللہ عنہ
حضرت عنترۃ مولیٰ سلیم بن عمرو رضی اللہ عنہ

غ ف ق

حضرت غنام بن اوس رضی اللہ عنہ
حضرت فاکۃ بن بشر رضی اللہ عنہ
حضرت فروۃ بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت قدامۃ بن مظعون رضی اللہ عنہ
حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ
حضرت قطبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت قیس بن محصن رضی اللہ عنہ
حضرت قیس بن مخلد رضی اللہ عنہ
حضرت قیس بن سکن رضی اللہ عنہ

ک ل

حضرت کعب بن جماز رضی اللہ عنہ
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت کلفتہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ

حضرت لبدة بن قیس رضی اللہ عنہ

م

حضرت مہج بن صالح شہید رضی اللہ عنہ
حضرت مالک بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ
حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ
حضرت مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ
حضرت محرز بن فضلة رضی اللہ عنہ
حضرت معز بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت معن بن عدی رضی اللہ عنہ
حضرت مظہر بن رافع رضی اللہ عنہ
حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ
حضرت منذرین بن محمد رضی اللہ عنہ
حضرت مالک بن نمل رضی اللہ عنہ
حضرت معتب بن قشیر رضی اللہ عنہ
حضرت مسعود بن عبد سعد رضی اللہ عنہ
حضرت معوذ بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ
حضرت معاذ بن صمة رضی اللہ عنہ
حضرت مالک بن رفاعة رضی اللہ عنہ
حضرت مالک بن مسعود رضی اللہ عنہ
حضرت مسعود بن خلدة رضی اللہ عنہ
حضرت مسعود بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت معبد بن عباد رضی اللہ عنہ

حضرت مالک بن ابی خولی رضی اللہ عنہ
حضرت مدلاج بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت معمر بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت مقدادا بن الاسود رضی اللہ عنہ
حضرت مسعود بن ربیعة رضی اللہ عنہ
حضرت معتب بن عوف رضی اللہ عنہ
حضرت مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ
حضرت معن بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت مرارة بن ربیع رضی اللہ عنہ
حضرت منذر بن قدامة رضی اللہ عنہ
حضرت مالک بن قدامة رضی اللہ عنہ
حضرت معز بن عدی رضی اللہ عنہ
حضرت مغیث بن عبید رضی اللہ عنہ
حضرت معوذ بن حارث شہید رضی اللہ عنہ
حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت معاذ بن ماعص رضی اللہ عنہ
حضرت مالک بن ربیعة رضی اللہ عنہ
حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ
حضرت مسعود بن اوس رضی اللہ عنہ
حضرت مسعود بن سعد رضی اللہ عنہ
حضرت مجذر بن زیاد رضی اللہ عنہ
حضرت معبد بن قیس رضی اللہ عنہ

حضرت معقل بن منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ	حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت محرز بن عامر رضی اللہ عنہ	حضرت ملیل بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت مناف بن حبیب رضی اللہ عنہ	

ن

حضرت نضر بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت نعمان بن عصر رضی اللہ عنہ
حضرت نعمان بن ابی خزمۃ رضی اللہ عنہ	حضرت نعمان بن سنان رضی اللہ عنہ
حضرت نعمان بن اعرج رضی اللہ عنہ	حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت نعمان بن عبدعمرو رضی اللہ عنہ	حضرت نعمان بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت نعیمان بن عمر رضی اللہ عنہ	حضرت نوفل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

و ھ

حضرت واقد بن عبدمناف رضی اللہ عنہ	حضرت وھب بن سعد رضی اللہ عنہ
حضرت ودیعۃ بن عمرو رضی اللہ عنہ	حضرت ورقۃ بن ایاس رضی اللہ عنہ
حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	حضرت ھانئی بن نیار رضی اللہ عنہ
حضرت ھبیل بن وبرۃ رضی اللہ عنہ	حضرت ھلال بن امیہ رضی اللہ عنہ
حضرت ھلال بن معلی رضی اللہ عنہ	حضرت ہلال بن ابی خولی رضی اللہ عنہ

ی

حضرت یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہ	حضرت یزید بن رقیش رضی اللہ عنہ
حضرت یزید بن سکن رضی اللہ عنہ	حضرت یزید بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت یزید بن خدام رضی اللہ عنہ	حضرت یزید بن منذر رضی اللہ عنہ

چند مشہور صحابہ کرام کے نام

ا

حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ	حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ
حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ	حضرت ابوجندل رضی اللہ عنہ
حضرت ابوبصرہ غفاری رضی اللہ عنہ	حضرت ابواسید رضی اللہ عنہ
حضرت ابوبرزہ رضی اللہ عنہ	حضرت ابواسرائیل رضی اللہ عنہ
حضرت ابوجہیم رضی اللہ عنہ	حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ	حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابومحذورہ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ
حضرت اسلم رضی اللہ عنہ	حضرت اھبان رضی اللہ عنہ
حضرت ابورفاعہ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ
حضرت ابوقحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ عنہ	حضرت اثال بن نعمان رضی اللہ عنہ
حضرت اثوب بن عتبہ رضی اللہ عنہ	حضرت احمد بن عجیان رضی اللہ عنہ
حضرت احب بن مالک رضی اللہ عنہ	حضرت احمر بن سلیم رضی اللہ عنہ
حضرت اخف بن قیس رضی اللہ عنہ	حضرت احوص بن مسعود رضی اللہ عنہ
حضرت احیۃ بن امیہ رضی اللہ عنہ	حضرت اخضر بن ابی الاخضر رضی اللہ عنہ
حضرت ادیم التغلبی رضی اللہ عنہ	حضرت ادریس شامی رضی اللہ عنہ
حضرت اذینۃ بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت اربد (آنحضرت کے خادم) رضی اللہ عنہ
حضرت ارطاۃ بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت ارمی بن اصحمہ رضی اللہ عنہ
حضرت ارزق عبدالحارث بن کلدۃ رضی اللہ عنہ	حضرت ازہر بن حمیضۃ رضی اللہ عنہ
حضرت اسحٰق الغنوی اسد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	حضرت اسد بن حارثہ رضی اللہ عنہ
حضرت اسفع بن شریح رضی اللہ عنہ	حضرت اسلع بن شریک رضی اللہ عنہ

حضرت اسمیل بن نضر رضی اللہ عنہ
حضرت اسود بن وہب رضی اللہ عنہ
حضرت اسجب الجرینی رضی اللہ عنہ
حضرت اصیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت اضیط بن حسین بن زعل رضی اللہ عنہ
حضرت اغر المزنی رضی اللہ عنہ
حضرت اقرم بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت اکثم بن الجون الکعبی رضی اللہ عنہ
حضرت انیف بن حبیب رضی اللہ عنہ
حضرت ابواشیلہ بن راسد اسلمی رضی اللہ عنہ
حضرت ابواذینۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ابولازور رضی اللہ عنہ
حضرت ابوامیہ المخزومی رضی اللہ عنہ
حضرت ابواہاب التمیمی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت اسید ابن خضیر رضی اللہ عنہ
حضرت اباس بن بکیر رضی اللہ عنہ
حضرت اقرح بن حابس رضی اللہ عنہ
حضرت افلح بن ابی القعیس رضی اللہ عنہ
حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ
حضرت اشیم الضبابی رضی اللہ عنہ
حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ
حضرت ایاس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

حضرت اسمر بن ساعد المزنی رضی اللہ عنہ
حضرت اسمر بن جاجر رضی اللہ عنہ
حضرت اصرم الشقری رضی اللہ عنہ
حضرت اضیط بن حسین بن زعل رضی اللہ عنہ
حضرت اعز بن یسار رضی اللہ عنہ
حضرت اقرع بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت اکثل بن شماخ رضی اللہ عنہ
حضرت اکیمۃ بن عبادۃ رضی اللہ عنہ
حضرت اہود بن عیاض رضی اللہ عنہ
حضرت ابواحمد بن جحش رضی اللہ عنہ
حضرت ابوارطاۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوسود بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت ابوانس الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت ابوایمن رضی اللہ عنہ
حضرت ابورجاء رضی اللہ عنہ
حضرت ابوشاہ یمنی رضی اللہ عنہ
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ
حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت ابیض بن جمال رضی اللہ عنہ
حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ
حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابومسعود رضی اللہ عنہ
حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ
حضرت ایفس رضی اللہ عنہ
حضرت ایقع بن ناکور رضی اللہ عنہ

حضرت ارطات بن زفر اعزنی رضی اللہ عنہ	حضرت ابوامیہ المخزومی رضی اللہ عنہ
حضرت امیہ بن صفوان رضی اللہ عنہ	حضرت اخرم اسدی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابراہیم بن ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ	حضرت ایوب بن بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ
حضرت اسیر بن عمرو الکندی رضی اللہ عنہ	

ب

حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ	حضرت ابوالبداح رضی اللہ عنہ
حضرت بصرۃ بن ابوبصرۃ رضی اللہ عنہ	حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت بشیر بن عبید رضی اللہ عنہ	حضرت بسر بن ابی البسر رضی اللہ عنہ
حضرت بجیرہ بن بجرۃ رضی اللہ عنہ	حضرت بجیر الاغاری رضی اللہ عنہ
حضرت بیرح بن اسد رضی اللہ عنہ	حضرت بسیسہ بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت بدر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	حضرت بردع بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت بکر بن مبشر رضی اللہ عنہ	حضرت بہیس بن سلمٰی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوبجیر رضی اللہ عنہ	حضرت ابوبردہ الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت ابوالبشر بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت ابوبکرۃ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت باذان انصاری رضی اللہ عنہ	حضرت بجیر بن ضبع رضی اللہ عنہ
حضرت بجیر بن ابی ربیعۃ رضی اللہ عنہ	حضرت بدر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت برح بن عسکر رضی اللہ عنہ	حضرت برمۃ بن معاویۃ رضی اللہ عنہ
حضرت برتح بن عرفجہ رضی اللہ عنہ	حضرت بلیل بن بلال رضی اللہ عنہ
حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہ	حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ
حضرت بشر بن معبد رضی اللہ عنہ	حضرت بدیل بن ورقاء رضی اللہ عنہ
حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہ	حضرت ابوالبشیر الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت ابوبرزہ رضی اللہ عنہ	حضرت برہ رضی اللہ عنہ

حضرت بشیر بن عاصم بن سفیان رضی اللہ عنہ

ت

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ
حضرت تلب بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ
حضرت توام بن دخان رضی اللہ عنہ
حضرت ابوتحیا الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت تمیم الحیشانی رضی اللہ عنہ
حضرت تمیمہ رضی اللہ عنہ
حضرت تمام بن عباس رضی اللہ عنہ
حضرت تہیان بن تہیان رضی اللہ عنہ
حضرت ابوتمام الثقفی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوتمیمۃ التمیمی رضی اللہ عنہ

ث

حضرت ثقف بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ
حضرت ثعلبہ بن زبیب رضی اللہ عنہ
حضرت ثور بن عزرۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوثعلبۃ الاشجعی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوثعلبۃ الاشجعی رضی اللہ عنہ
حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوثعلبہ بن جرھم رضی اللہ عنہ
حضرت ثعلبہ بن حکم لیثی رضی اللہ عنہ
حضرت ثلب بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ
حضرت ثروان بن فزارہ رضی اللہ عنہ
حضرت ثقب بن فروہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوثابت القرشی رضی اللہ عنہ
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ
حضرت ثابن بن ضحاک رضی اللہ عنہ

ج

حضرت جرول بن العباس رضی اللہ عنہ
حضرت جریج ابوشاہ رضی اللہ عنہ
حضرت جری بن انس رضی اللہ عنہ
حضرت جرہد بن خویلد رضی اللہ عنہ
حضرت جری بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت جسر بن وہب رضی اللہ عنہ

حضرت جثیب رضی اللہ عنہ

حضرت جاحل ابومسلم رضی اللہ عنہ

حضرت جاریہ بن ظفر رضی اللہ عنہ

حضرت جبل بن جوال رضی اللہ عنہ

حضرت جثامہ بن مساحق رضی اللہ عنہ

حضرت جدار اسلمی رضی اللہ عنہ

حضرت جدیع بن نذیر رضی اللہ عنہ

حضرت جراد ابوعبداللہ رضی اللہ عنہ

حضرت جرموز الہجیمی رضی اللہ عنہ

حضرت جشیش الدیلمی رضی اللہ عنہ

حضرت جعدہ بن ہبیرۃ رضی اللہ عنہ

حضرت جعفی بن سعد رضی اللہ عنہ

حضرت جفشیش بن نعمان رضی اللہ عنہ

حضرت جلیحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

حضرت جمرہ بن عوف رضی اللہ عنہ

حضرت جمیل بن عامر رضی اللہ عنہ

حضرت جنادح بن میمون رضی اللہ عنہ

حضرت جندب بن عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ

حضرت جہجاہ بن قیس رضی اللہ عنہ

حضرت جہیش بن اویس رضی اللہ عنہ

حضرت ابوجبیر رضی اللہ عنہ

حضرت ابوجعفر الانصاری رضی اللہ عنہ

حضرت ابوجہاد رضی اللہ عنہ

حضرت ابوجہم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ

حضرت جنادۃ بن ابوامیہ الازدی رضی اللہ عنہ

حضرت جابان ابومیمون رضی اللہ عنہ

حضرت جارود بن معلّٰی رضی اللہ عنہ

حضرت جبر بن انس عتیک رضی اللہ عنہ

حضرت حبیب بن حارث رضی اللہ عنہ

حضرت جحاف بن حکیم رضی اللہ عنہ

حضرت جد بن قیس رضی اللہ عنہ

حضرت جراح بن ابی جراح رضی اللہ عنہ

حضرت جرثوم بن ناشب رضی اللہ عنہ

حضرت جرد بن عمرو رضی اللہ عنہ

حضرت جعال بن سراقہ رضی اللہ عنہ

حضرت جعشم بن خلیبۃ رضی اللہ عنہ

حضرت جعیل بن زیاد رضی اللہ عنہ

حضرت جفینۃ الجہنی رضی اللہ عنہ

حضرت جمانۃ الباہلی رضی اللہ عنہ

حضرت جمیع بن مسعود رضی اللہ عنہ

حضرت جناب بن قیظی رضی اللہ عنہ

حضرت جندع بن ضمرۃ رضی اللہ عنہ

حضرت جہبل بن سیف رضی اللہ عنہ

حضرت جہم بن قیس رضی اللہ عنہ

حضرت جیفر بن جلندی رضی اللہ عنہ

حضرت ابوجبیرۃ رضی اللہ عنہ

حضرت ابوجندب رضی اللہ عنہ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابوجحیفہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابوجعد ضمیری رضی اللہ عنہ

حضرت ابوجمیل رضی اللہ عنہ	حضرت جنادة بن امیہ رضی اللہ عنہ
حضرت جریر بن خولید المدنی رضی اللہ عنہ	حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ
حضرت جبلہ بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت جرید بن خویلد رضی اللہ عنہ
حضرت جبیر بن نغیر رضی اللہ عنہ	حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ	حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ
حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ
حضرت ابوجمعۃ الانصاری رضی اللہ عنہ	حضرت جندب بن ازرح رضی اللہ عنہ

ح

حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ	حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ	حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ
حضرت حکم بن عمرو رضی اللہ عنہ	حضرت حویصہ بن کعب رضی اللہ عنہ
حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ	حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ
حضرت ابوحبہ انصاری رضی اللہ عنہ	حضرت ابوحنظلہ رضی اللہ عنہ
حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ	حضرت حاطب بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت ابوحمید رضی اللہ عنہ	حضرت حرام بن عوف رضی اللہ عنہ
حضرت حمزہ بن ابی اسید رضی اللہ عنہ	حضرت حنظلہ بن قسامہ رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن عمرو رضی اللہ عنہ	حضرت حیدة بن معاویہ القشیری رضی اللہ عنہ
حضرت حارث بن سوید رضی اللہ عنہ	حضرت حصین بن الحرثاث رضی اللہ عنہ
حضرت حصین بن نمیر الکندی رضی اللہ عنہ	حضرت حبیب بن سباء رضی اللہ عنہ
حضرت حویطب رضی اللہ عنہ	حضرت حبیب بن مسلم رضی اللہ عنہ
حضرت حبش بن خالد رضی اللہ عنہ	حضرت حجاج بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت حصین بن جندب رضی اللہ عنہ	حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوحیۃ التمیمی رضی اللہ عنہ	حضرت ابوحماد رضی اللہ عنہ

حضرت حابس بن دغنہ رضی اللہ عنہ
حضرت حازم بن حرملۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ
حضرت حبیش بن خالد رضی اللہ عنہ
حضرت حجر بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حجیر بن بیان رضی اللہ عنہ
حضرت حزیم بن حنیفۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حراش بن امیہ رضی اللہ عنہ
حضرت حرقوص بن زہیر رضی اللہ عنہ
حضرت حریز بن شراحیل رضی اللہ عنہ
حضرت ابوحریزۃ الثقفی رضی اللہ عنہ
حضرت حزام ابن خویلد رضی اللہ عنہ
حضرت حزن بن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ
حضرت حسل بن خارجۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حشرج رضی اللہ عنہ
حضرت حضرمی بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت حطیئۃ الشاعر رضی اللہ عنہ
حضرت حفشیش الکندی رضی اللہ عنہ
حضرت حلیس بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت حماس اللیثی رضی اللہ عنہ
حضرت حمران بن جابر رضی اللہ عنہ
حضرت ابوحسین بن لقمان رضی اللہ عنہ
حضرت حمنن بن عوف رضی اللہ عنہ
حضرت حمیر بن عدی رضی اللہ عنہ
حضرت حمیل بن بصرۃ رضی اللہ عنہ

حضرت حاجب بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت حجاب بن زبیر رضی اللہ عنہ
حضرت حبۃ بن خالد رضی اللہ عنہ
حضرت ختاب بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت حجن بن المرقع رضی اللہ عنہ
حضرت حدیر ابوفوزۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حر بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت حرب بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت حریث بن سلمۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حریش بن ہلال رضی اللہ عنہ
حضرت حزابۃ بن نعیم رضی اللہ عنہ
حضرت حرم بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت حسحاس بن بکر رضی اللہ عنہ
حضرت حسیل بن جابر رضی اللہ عنہ
حضرت حصیب رضی اللہ عنہ
حضرت ختاب بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت حطیم المدانی رضی اللہ عنہ
حضرت حفص بن مغیرۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حماد رضی اللہ عنہ
حضرت حمام بن جموح رضی اللہ عنہ
حضرت حمل بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت ابوحفصہ رضی اللہ عنہ
حضرت حمید بن عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ
حضرت حمیضہ بن رقیم رضی اللہ عنہ
حضرت حنبل بن خارجۃ رضی اللہ عنہ

حضرت حنش بن عقیل رضی اللہ عنہ	حضرت خطب بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت حنظل بن ضرار رضی اللہ عنہ	حضرت حنیف بن ریاب رضی اللہ عنہ
حضرت حنیفہ الرقاشی رضی اللہ عنہ	حضرت حوترہ العصری رضی اللہ عنہ
حضرت حوشب بن طخیہ رضی اللہ عنہ	حضرت حویرث بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت حوشب بن یزید رضی اللہ عنہ	حضرت حبان بن ضمرۃ رضی اللہ عنہ
حضرت حبی بن حارثۃ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوحاتم المزنی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوحبیب العنبری رضی اللہ عنہ	حضرت ابوحثمہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوالحجاج الثمالی رضی اللہ عنہ	حضرت ابوحدیدۃ الجہنی رضی اللہ عنہ

خ

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ	حضرت خباب رضی اللہ عنہ
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ	حضرت خویلد بن عمرو خزاعی رضی اللہ عنہ
حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ	حضرت خزیم بن اخرم رضی اللہ عنہ
حضرت خرباق رضی اللہ عنہ	حضرت خالد بن ہوزہ رضی اللہ عنہ
حضرت خدام رضی اللہ عنہ	حضرت خربان رضی اللہ عنہ
حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ	حضرت خفاف بن نضلۃ رضی اللہ عنہ
حضرت خنیس رضی اللہ عنہ	حضرت خلف بن عبدالمالک رضی اللہ عنہ
حضرت ابوخثیمہ رضی اللہ عنہ	حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ
حضرت خناتۃ بن کعب رضی اللہ عنہ	حضرت خرشۃ بن حرالغزاری رضی اللہ عنہ
حضرت خارجہ بن حصن رضی اللہ عنہ	حضرت خداش بن بشیر رضی اللہ عنہ
حضرت خدیج بن سالم رضی اللہ عنہ	حضرت خزام بن ودیعۃ رضی اللہ عنہ
حضرت خراش بن مالک رضی اللہ عنہ	حضرت خریت بن راشد رضی اللہ عنہ
حضرت ابوخصیفہ رضی اللہ عنہ	حضرت خریم بن فاتک رضی اللہ عنہ
حضرت خزاعی بن اسود رضی اللہ عنہ	حضرت ابوخلاد رضی اللہ عنہ

حضرت خزامہ بن یعمر رضی اللہ عنہ

حضرت خشرم بن حباب رضی اللہ عنہ

حضرت ابو خلیدۃ الفہری رضی اللہ عنہ

حضرت خفشیش الکندی رضی اللہ عنہ

حضرت خلیفہ بن بشر رضی اللہ عنہ

حضرت خمیصہ بن ابان رضی اللہ عنہ

حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ

حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ

حضرت خیثمہ بن حارث رضی اللہ عنہ

حضرت خشخاص بن حارث رضی اللہ عنہ

حضرت خصفۃ رضی اللہ عنہ

حضرت خطیم رضی اللہ عنہ

حضرت خلید بن قیس رضی اللہ عنہ

حضرت خمخام بن حارث رضی اللہ عنہ

حضرت خنافر بن التوام رضی اللہ عنہ

حضرت ابو خریف رضی اللہ عنہ

حضرت خبری بن نعمان رضی اللہ عنہ

د

حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ

حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابو داؤد الانصاری رضی اللہ عنہ

حضرت دارم بن ابی دارم رضی اللہ عنہ

حضرت دخان ابو شعبۃ رضی اللہ عنہ

حضرت دعثور بن حارث رضی اللہ عنہ

حضرت دلجہ بن قیس رضی اللہ عنہ

حضرت دینار ابو عمرو رضی اللہ عنہ

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ

حضرت غفل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ

حضرت داذویۃ رضی اللہ عنہ

حضرت داؤد بن ہلال رضی اللہ عنہ

حضرت درہم ابو معاویہ رضی اللہ عنہ

حضرت دکین بن سعید رضی اللہ عنہ

حضرت دیلم بن فیروز رضی اللہ عنہ

ذ

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ

حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ

حضرت ذابل بن طفیل رضی اللہ عنہ

حضرت ذو مخبر رضی اللہ عنہ

حضرت ذکوان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

حضرت ذباب بن حارث رضی اللہ عنہ

حضرت ذرعہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ	حضرت ذفافۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ذہن بن قرظم رضی اللہ عنہ	حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ
حضرت ذوالاصابع تمیمی رضی اللہ عنہ	حضرت ذوالاذنین رضی اللہ عنہ
حضرت ذوجدن رضی اللہ عنہ	حضرت ذوالجوشن رضی اللہ عنہ
حضرت ذوحوشب رضی اللہ عنہ	حضرت ذوالخویصرۃ تمیمی رضی اللہ عنہ
حضرت ذوخیوان رضی اللہ عنہ	حضرت ذودجن رضی اللہ عنہ
حضرت ذوالزوئد رضی اللہ عنہ	حضرت ذوالشمالین رضی اللہ عنہ
حضرت ذوظلیم رضی اللہ عنہ	حضرت ذوعمرو رضی اللہ عنہ
حضرت ذوالغرۃ رضی اللہ عنہ	حضرت ذوالغصۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ذوقرنات رضی اللہ عنہ	حضرت ذوالکلاع رضی اللہ عنہ
حضرت ذومخبر رضی اللہ عنہ	حضرت ذومران رضی اللہ عنہ
حضرت ذواللسائینٰ رضی اللہ عنہ	حضرت ذومناحب رضی اللہ عنہ
حضرت ذومنادح رضی اللہ عنہ	حضرت ذومہدم رضی اللہ عنہ
حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ	حضرت ذؤیب بن حارثہ رضی اللہ عنہ

ر

حضرت رافع بن مکیث رضی اللہ عنہ	حضرت رباح بن ربیع رضی اللہ عنہ
حضرت رفاعہ بن سموال رضی اللہ عنہ	حضرت ربیعہ بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت رافع بن خدیج انصاری رضی اللہ عنہ	حضرت ابورافع بن اسلم رضی اللہ عنہ
حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ	حضرت ابوریحانہ شمعون بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت ابورمثہ رضی اللہ عنہ	حضرت ابورزین رضی اللہ عنہ
حضرت ربیعہ بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ
حضرت رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ	حضرت ابورویحہ الخشمی رضی اللہ عنہ
حضرت ابورہم بن مطعم رضی اللہ عنہ	حضرت ریحانہ الازدی رضی اللہ عنہ

حضرت ابوریمہ بصری رضی اللہ عنہ	حضرت راشد بن جیش رضی اللہ عنہ
حضرت ربتس بن عامر رضی اللہ عنہ	حضرت ربعی بن خراش رضی اللہ عنہ
حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ	حضرت رجاء ابویزید رضی اللہ عنہ
حضرت رنصہ بن خربۃ رضی اللہ عنہ	حضرت رحیل الجعفی رضی اللہ عنہ
حضرت زحیلہ بن ثعلبۃ رضی اللہ عنہ	حضرت ردیح بن ذویب رضی اللہ عنہ
حضرت رزین بن مالک رضی اللہ عنہ	حضرت رسیم الہجری رضی اللہ عنہ
حضرت رشدان الجہنی رضی اللہ عنہ	حضرت رشید الہجری رضی اللہ عنہ
حضرت ریمہ السعیمی رضی اللہ عنہ	حضرت رفیع ابوالعالیۃ رضی اللہ عنہ
حضرت رکب المصری رضی اللہ عنہ	حضرت روح بن یسار رضی اللہ عنہ
حضرت رومان الرومی رضی اللہ عنہ	حضرت رثابین حنیف رضی اللہ عنہ
حضرت ابوراشد الازدی رضی اللہ عنہ	حضرت ابورافع (خادم رسول ﷺ) رضی اللہ عنہ
حضرت ابورائطہ المدجی رضی اللہ عنہ	حضرت ابوردینی الشامی رضی اللہ عنہ

ز

حضرت زاہر بن اسود رضی اللہ عنہ	حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ	حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ
حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ	حضرت زید ابن سہل رضی اللہ عنہ
حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت زراع بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت ابوزہیر نمیری رضی اللہ عنہ	حضرت ابوزمعۃ البلوی رضی اللہ عنہ
حضرت زمل بن عمرو العذاری رضی اللہ عنہ	حضرت زرارۃ بن جزی بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت زہیر بن قیس رضی اللہ عنہ	حضرت زر بن جیش رضی اللہ عنہ
حضرت زرارہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ	حضرت زبیدی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوزید انصاری رضی اللہ عنہ	حضرت زبرقان بن اسلم رضی اللہ عنہ
حضرت زبیب بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ	حضرت زارع بن عامر رضی اللہ عنہ

حضرت زرعہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت زرین بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت زخر بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت زکریا بن علقمۃ رضی اللہ عنہ
حضرت زمل بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت زنباع بن سلامۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوزرارۃ النخعی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوزرعہ القرعی رضی اللہ عنہ
حضرت ابورعنہ الشاعر رضی اللہ عنہ
حضرت ابوزمعہ البلوی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوزہراء البلوی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوزہیر الثقفی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوزوائد الیمانی رضی اللہ عنہ

س

حضرت سید ظہیر بن رافع رضی اللہ عنہ
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
حضرت سفیان رضی اللہ عنہ
حضرت سلیک رضی اللہ عنہ
حضرت ابوسنابل رضی اللہ عنہ
حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ
حضرت سابط بن حمیضۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ
حضرت ساعدۃ بن حرام رضی اللہ عنہ
حضرت سالف بن عثمان رضی اللہ عنہ
حضرت سباع بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت سبیع بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت سراج ابومجاہد رضی اللہ عنہ
حضرت سریع بن حکم رضی اللہ عنہ
حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت سلام بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت سلامۃ بن قیصر رضی اللہ عنہ
حضرت سلکان بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت سلیط بن سفیان رضی اللہ عنہ
حضرت سلیم بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت سماک بن مخرمۃ رضی اللہ عنہ
حضرت سمرۃ بن حبیب رضی اللہ عنہ
حضرت سمعان بن خالد رضی اللہ عنہ
حضرت سمیر بن زہیر رضی اللہ عنہ
حضرت سنان بن شفعلہ رضی اللہ عنہ
حضرت سنین ابوجمیلۃ رضی اللہ عنہ
حضرت سواء بن خالد رضی اللہ عنہ
حضرت سواد بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت سوادۃ بن الربیع رضی اللہ عنہ
حضرت سویق بن حاطب رضی اللہ عنہ

حضرت سیابۃ بن عاصم رضی اللہ عنہ	حضرت سیار بن بلز رضی اللہ عنہ
حضرت سیف بن قیس رضی اللہ عنہ	حضرت ابوسبرۃ الغجفی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوسریحۃ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوسعاد رضی اللہ عنہ
حضرت ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت ابوسلام الہاشمی رضی اللہ عنہ
حضرت سملۃ بن قیس رضی اللہ عنہ	حضرت سلمۃ بن صغر رضی اللہ عنہ
حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ	حضرت سوید بن غفلۃ رضی اللہ عنہ
حضرت سائب بن یزید بن سعد رضی اللہ عنہ	حضرت سائب بن ابی لبابہ رضی اللہ عنہ
حضرت سنین رضی اللہ عنہ	حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ
حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ	حضرت سہیل رضی اللہ عنہ
حضرت سالم بن معقل رضی اللہ عنہ	حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ
حضرت سبرہ بن معبد رضی اللہ عنہ	حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوسیف القین رضی اللہ عنہ	حضرت سعید ابن ربیع رضی اللہ عنہ
حضرت سعید ابن اطول رضی اللہ عنہ	حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ
حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ	حضرت سعید ابن حریث رضی اللہ عنہ
حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ	حضرت سہل ابن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ
حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ	حضرت سہل ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ
حضرت سہل ابن عمرو رضی اللہ عنہ	حضرت سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ
حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ	حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت سالم بن عبید رضی اللہ عنہ	حضرت سفیان بن اسید رضی اللہ عنہ
حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ
حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ	حضرت سائب بن خلاد رضی اللہ عنہ
حضرت سوید بن قیس رضی اللہ عنہ	حضرت سائب بن ابومسلم رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن عائذ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوسنان العبدی رضی اللہ عنہ
حضرت سعد بن ایاس ابوعمر رضی اللہ عنہ	حضرت سعد ابن زید الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت سلمہ بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ	حضرت سعید بن وھب رضی اللہ عنہ

حضرت سندر بن ابی الاسود رضی اللہ عنہ	حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوسعید بن المعلی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوسعید سعد بن مالک رضی اللہ عنہ	حضرت ابوالسمع رضی اللہ عنہ
حضرت ابوسہلہ رضی اللہ عنہ	

ش

حضرت شرید ابن سوید رضی اللہ عنہ	حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ
حضرت شریح بن ہانی رضی اللہ عنہ	حضرت شریک بن سحماء رضی اللہ عنہ
حضرت ابوشبرمہ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوشعیب رضی اللہ عنہ
حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ	حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ عنہ
حضرت شریح بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت ابوشریح رضی اللہ عنہ
حضرت شکل ابن حمید رضی اللہ عنہ	حضرت ابوشہم رضی اللہ عنہ
حضرت شمیلہ الشنوی رضی اللہ عنہ	حضرت ابوشماس بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت شافع بن السائب رضی اللہ عنہ	حضرت شبت بن سعد رضی اللہ عنہ
حضرت شاہ الیمانی رضی اللہ عنہ	حضرت شباب بن خدیج رضی اللہ عنہ
حضرت شبر بن صعفوق رضی اللہ عنہ	حضرت شبرمہ رضی اللہ عنہ
حضرت شبل ابوعبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ	حضرت شبیب بن نعیم رضی اللہ عنہ
حضرت شبیل بن عوف رضی اللہ عنہ	حضرت شباب بن خدیج رضی اللہ عنہ
حضرت شجرود بن مالک رضی اللہ عنہ	حضرت شراحیل بن زرعہ رضی اللہ عنہ
حضرت شرحبیل بن السمط رضی اللہ عنہ	حضرت شمعون بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت شہاب بن زہیر رضی اللہ عنہ	حضرت شیبان بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت شیبۃ بن عثمان رضی اللہ عنہ	حضرت ابوشباب رضی اللہ عنہ
حضرت ابوشداد رضی اللہ عنہ	

ص

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ	حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ
حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ	حضرت صغر بن حرب رضی اللہ عنہ
حضرت صخر بن وداعہ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوصرمہ بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ	حضرت صالحی بن زاہر رضی اللہ عنہ
حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ	حضرت صعصعہ بن معاویہ بن حصین رضی اللہ عنہ
حضرت صبیح مولیٰ حویطب رضی اللہ عنہ	حضرت صیرم بن یربوع رضی اللہ عنہ
حضرت صرمہ بن انس رضی اللہ عنہ	حضرت صفرہ ابومعدان رضی اللہ عنہ
حضرت الصلت بن مخرمۃ رضی اللہ عنہ	حضرت صلصل بن شرجیل رضی اللہ عنہ
حضرت صنابح بن الاعسر رضی اللہ عنہ	حضرت صہبان بن عثمان رضی اللہ عنہ
حضرت ابوصفیہ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوصفوان رضی اللہ عنہ

ض

حضرت ضرار بن الخطاب رضی اللہ عنہ	حضرت ضرس بن قطیعۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ضمار بن رہط رضی اللہ عنہ	حضرت ضمضم بن قتادۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ضمیرۃ بن حبیب رضی اللہ عنہ	حضرت ضب بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ	حضرت ضباعہ رضی اللہ عنہ
حضرت ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ	حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ
حضرت ضمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ	حضرت ضمیر رضی اللہ عنہ
حضرت ابوضبیس البحری رضی اللہ عنہ	حضرت ابوضحاک الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت ابوضمرۃ بن عیص رضی اللہ عنہ	حضرت ابوضمضم رضی اللہ عنہ
حضرت ضغاطر السقف رومی رضی اللہ عنہ	حضرت ابوضیاع رضی اللہ عنہ
حضرت ابوضمیرہ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوضمیمۃ رضی اللہ عنہ

ط

حضرت ابوطلیق الاشعی رضی اللہ عنہ
حضرت طبابۃ بن معیص رضی اللہ عنہ
حضرت طرتح بن سعید رضی اللہ عنہ
حضرت طریف بن ابان رضی اللہ عنہ
حضرت طریفہ بن حاجز رضی اللہ عنہ
حضرت طہفۃ بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت حضرت طخفہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوطیبہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوطفیل رضی اللہ عنہ
حضرت طارق بن سوید رضی اللہ عنہ
حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ
حضرت طلحہ بن ابراء انصاری رضی اللہ عنہ

حضرت طاہر بن ابی ہالۃ رضی اللہ عنہ
حضرت طرفۃ بن عرفجۃ رضی اللہ عنہ
حضرت طرح بن سعید رضی اللہ عنہ
حضرت طمعۃ بن ابیرق رضی اللہ عنہ
حضرت طلیحۃ بن الدیلمی رضی اللہ عنہ
حضرت طہمان مولیٰ سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ
حضرت ابوطریف الہذی رضی اللہ عنہ
حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ
حضرت طفیل بن عمرو درشی رضی اللہ عنہ
حضرت طلق بن علی یمامی رضی اللہ عنہ

ظ ع

حضرت ظبیان بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ظہیر بن سنان رضی اللہ عنہ
حضرت ابوظبیہ رضی اللہ عنہ
حضرت عاصم رضی اللہ عنہ
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ
حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ
حضرت عتبان رضی اللہ عنہ
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ

حضرت ظفر بن دھی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوظبیان الاعرج رضی اللہ عنہ
حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ
حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ
حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ
حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ

حضرت عمران بن ملحان ابورجاء
حضرت عمیر رضی اللہ عنہ
حضرت عویمر بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ
حضرت عطیہ بن بسر اعازنی رضی اللہ عنہ
حضرت عائذ اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت عکرشی بن زویب رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ
حضرت عتبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت عثمان بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت عثمان بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ
حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
حضرت عباد بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ
حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ
حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ
حضرت عتبہ بن اسید رضی اللہ عنہ
حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ عنہ
حضرت عبایۃ بن بجیر رضی اللہ عنہ
حضرت عبدالعزیز بن بدر رضی اللہ عنہ
حضرت عبدالنور الجھی رضی اللہ عنہ
حضرت عبد بن جحش رضی اللہ عنہ
حضرت عتیق بن یزید رضی اللہ عنہ

حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ
حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت عامر الرام رضی اللہ عنہ
حضرت عفیف بن حارث البسکونی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعتبہ الخولانی رضی اللہ عنہ
حضرت عفان بن وھب الخولانی رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ
حضرت عرباض بن سازیہ رضی اللہ عنہ
حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ
حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ
حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ
حضرت علی بن شیبان رضی اللہ عنہ
حضرت عبدالرحمٰن بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ
حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ
حضرت عبیداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ
حضرت عدا بن خالد رضی اللہ عنہ
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ
حضرت عابد بن السائب رضی اللہ عنہ
حضرت عبدالحمید بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت عبدالمالک بن سعید رضی اللہ عنہ
حضرت عبیس مولیٰ ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ
حضرت عظیم بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعمرۃ الانصاری رضی اللہ عنہ

حضرت عقیل بن مقرن رضی اللہ عنہ
حضرت عطیہ بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ
حضرت علا ابن حضرمی رضی اللہ عنہ
حضرت عمرو بن سفیان البکائی رضی اللہ عنہ
حضرت عمیر ابن حکیم العشی رضی اللہ عنہ
حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ
حضرت عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعمرو بن حفص رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعبس عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعبادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعبیداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعثمان الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعسیب رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعلقمہ بن الاعور رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعلی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعمیرۃ رشید بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعیسیٰ الانصاری رضی اللہ عنہ

حضرت عروہ بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ
حضرت عقبہ بن رافع رضی اللہ عنہ
حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ
حضرت علقمہ بن وقاص رضی اللہ عنہ
حضرت عکراش بن ذویب رضی اللہ عنہ
حضرت عویمر بن ابیض رضی اللہ عنہ
حضرت عصام مزنی رضی اللہ عنہ
حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعیاش زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعسیب احمر رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعامر الاشعری رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعائشہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعبدالعزیز رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعبید بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعریان المحاربی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعنیہ المزنی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعمر الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت ابوعمیر الاصبی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو العوجاء السلمی رضی اللہ عنہ

غ

حضرت غاطرۃ بن سمرۃ رضی اللہ عنہ
حضرت غرفتہ بن حارث رضی اللہ عنہ

حضرت غالب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت غزیۃ بن عمرو رضی اللہ عنہ

حضرت غسان بن خنیس رضی اللہ عنہ	حضرت غشمیر رضی اللہ عنہ
حضرت غنیم بن عثمان رضی اللہ عنہ	حضرت غورث بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت غضیب بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت غرفتہ بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت غزیۃ بن حارث رضی اللہ عنہ	حضرت غیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابوغنیم الخولانی رضی اللہ عنہ	حضرت ابوالغادینہ الجہنی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوغزوان رضی اللہ عنہ	حضرت ابو غاضرۃ اللیثی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوغزیہ الانصاری رضی اللہ عنہ	حضرت ابوغطیف رضی اللہ عنہ

ف

حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ	حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ
حضرت فروہ بن عمرو رضی اللہ عنہ	حضرت فیروز الدیلمی رضی اللہ عنہ
حضرت فجیع بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	حضرت فروہ بن مسیک رضی اللہ عنہ
حضرت فاتک ابوغریم رضی اللہ عنہ	حضرت فدیک بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت فرات بن ثعلبۃ رضی اللہ عنہ	حضرت فراس بن عمرو اللیثی رضی اللہ عنہ
حضرت فرزوق رضی اللہ عنہ	حضرت فرقد العجلی رضی اللہ عنہ
حضرت فروۃ بن خراش رضی اللہ عنہ	حضرت فضل بن یحییٰ رضی اللہ عنہ
حضرت فہم بن عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ	حضرت فلتان بن عاصم رضی اللہ عنہ

ق

حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ	حضرت قبیصہ بن وقاص رضی اللہ عنہ
حضرت قدامہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت قبیصہ بن جابر الاسدی رضی اللہ عنہ	حضرت قباث بن اشیم رضی اللہ عنہ
حضرت قرظہ بن مالک رضی اللہ عنہ	حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ
حضرت قرۃ بن ایاس رضی اللہ عنہ	حضرت قباث رضی اللہ عنہ

حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ	حضرت قبیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ
حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ	حضرت قعقاع بن سعید رضی اللہ عنہ
حضرت قارب بن اسود رضی اللہ عنہ	حضرت قاسم الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت قتادہ بن عیاش رضی اللہ عنہ	حضرت قثم بن عباس رضی اللہ عنہ
حضرت قدامہ بن مالک رضی اللہ عنہ	حضرت قذاد بن الحدرجان رضی اللہ عنہ
حضرت قرط بن جریر الازدی رضی اللہ عنہ	حضرت قزعۃ بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت قسامۃ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ	حضرت قشیر ابو اسرائیل رضی اللہ عنہ
حضرت قصی بن عمرو رضی اللہ عنہ	حضرت قطن بن حارثہ رضی اللہ عنہ
حضرت قفیر رضی اللہ عنہ	حضرت قلیب رضی اللہ عنہ
حضرت قنان بن دارم رضی اللہ عنہ	حضرت قنفذ بن عمیر رضی اللہ عنہ
حضرت قیاثۃ بن اسامہ رضی اللہ عنہ	حضرت قیسۃ بن کلثوم رضی اللہ عنہ
حضرت قیظی بن قیس رضی اللہ عنہ	حضرت تا ابوقراءۃ السلمی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوقرۃ بن معاویہ رضی اللہ عنہ	حضرت ابو قعیس عائشہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابو قیس الجھنی رضی اللہ عنہ	حضرت ابو القین الخزاعی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو قطبہ یزید بن عمرو رضی اللہ عنہ	

ک

حضرت کرز بن جابر رضی اللہ عنہ	حضرت کثیر بن صلت رضی اللہ عنہ
حضرت کرکرہ رضی اللہ عنہ	حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ
حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ	حضرت کعب ابن عجرۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ابو کاہل الاحمسی رضی اللہ عنہ	حضرت ابو کثیر رضی اللہ عنہ
حضرت کبائۃ بن اوس رضی اللہ عنہ	حضرت کبیس بن ھوذۃ رضی اللہ عنہ
حضرت کدیر بن قتادۃ رضی اللہ عنہ	حضرت کرامۃ بن ثابت رضی اللہ عنہ
حضرت کردم بن سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ	حضرت کردوس بن عمرو رضی اللہ عنہ

حضرت کرزین بن سلمٰی العامری رضی اللہ عنہ	حضرت کریب رضی اللہ عنہ
حضرت کریز بن اسامہ رضی اللہ عنہ	حضرت کریم بن الحارث رضی اللہ عنہ
حضرت کشذ الجھنی رضی اللہ عنہ	حضرت کلیب بن اساف رضی اللہ عنہ
حضرت کناز بن حصین رضی اللہ عنہ	حضرت کنانہ بن عدی رضی اللہ عنہ
حضرت کندیر بن سعید رضی اللہ عنہ	حضرت کہمس الہلالی رضی اللہ عنہ
حضرت کوکب رضی اللہ عنہ	حضرت کیسان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت کلفۃ بن ثعلبۃ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوکلیب الجھنی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوکلاب بن ابی صعصعۃ رضی اللہ عنہ	حضرت ابوکبیر الہذلی رضی اللہ عنہ

ل

حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ عنہ	حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ
حضرت لبید ربیعۃ رضی اللہ عنہ	حضرت ابولیلٰی جعدی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوالجہم الانجانیہ رضی اللہ عنہ	حضرت ابن اللتبیہ رضی اللہ عنہ
حضرت لجلاج العامری رضی اللہ عنہ	حضرت لاحب بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت لاحق بن ضمیرۃ رضی اللہ عنہ	حضرت لاشر بن حمیر رضی اللہ عنہ
حضرت لبدۃ بن عامر رضی اللہ عنہ	حضرت لبیۃ الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت لصیت بن خثیم رضی اللہ عنہ	حضرت لقیس بن سلمان رضی اللہ عنہ
حضرت لقمان بن شیبۃ رضی اللہ عنہ	حضرت لمیس ابوسلمٰی رضی اللہ عنہ
حضرت لیشرۃ بن یحیٰی رضی اللہ عنہ	حضرت لہیعۃ الحضرمی رضی اللہ عنہ
حضرت لبی بن لبا رضی اللہ عنہ	حضرت ابولاش الخزاعی رضی اللہ عنہ
حضرت ابولبیہ الاشہلی رضی اللہ عنہ	

م

حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ	حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ
حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ
حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت مالک بن اوس رضی اللہ عنہ
حضرت مزیدۃ بن جابر رضی اللہ عنہ
حضرت ابو مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو مخارق رضی اللہ عنہ
حضرت ابو مراوح الغفاری رضی اللہ عنہ
حضرت ابو مرۃ الطائفی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو مریم الازدی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو معقل بن نھیک رضی اللہ عنہ
حضرت ابو مکرم الاسلمی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو مکنف رضی اللہ عنہ
حضرت ابو ملیکہ البلوی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو المنذر رضی اللہ عنہ
حضرت ابو منیب رضی اللہ عنہ
حضرت ابو میمون رضی اللہ عنہ
حضرت مازن خیثمۃ رضی اللہ عنہ
حضرت مبرح بن شہاب رضی اللہ عنہ
حضرت متمم بن نویرہ رضی اللہ عنہ
حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ
حضرت مجیفۃ بن نعمان رضی اللہ عنہ
حضرت محرز بن زہیر رضی اللہ عنہ
حضرت محمول انصاری رضی اللہ عنہ

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ
حضرت معقل بن سنان رضی اللہ عنہ
حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابو مذکور انصاری رضی اللہ عنہ
حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت مطر بن عکامس رضی اللہ عنہ
حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابو مذکور الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت ابو مرحب رضی اللہ عنہ
حضرت ابو مروان الاسلمیٰ رضی اللہ عنہ
حضرت ابو معتصب بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت ابو معمر الاشج رضی اللہ عنہ
حضرت ابو ملکعت الاسدی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو ملیح بن عروہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابو ملیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابو منفعۃ الثقفی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو میسرہ رضی اللہ عنہ
حضرت ماتع مولیٰ بنی مخزوم رضی اللہ عنہ
حضرت مبارک الیمامۃ رضی اللہ عنہ
حضرت مبشر بن ابیرق رضی اللہ عنہ
حضرت شعب السلیمی رضی اللہ عنہ
حضرت مجدی بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت محدوج بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت محصن بن ابی قیس رضی اللہ عنہ
حضرت مختار بن حارثہ رضی اللہ عنہ

حضرت محمر بن معاویہ رضی اللہ عنہ
حضرت مدرک بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت مذعور بن عدی رضی اللہ عنہ
حضرت مرزبان بن نعمان رضی اللہ عنہ
حضرت معبد بن خالد الجہینی رضی اللہ عنہ
حضرت مسور بن مخزمہ رضی اللہ عنہ
حضرت مستور بن شداد رضی اللہ عنہ
حضرت مہاجر بن خالد رضی اللہ عنہ
حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ
حضرت معن بن عدی رضی اللہ عنہ
حضرت مغیث بن عمرواجومروان رضی اللہ عنہ
حضرت مول بن کثیف بن حمل رضی اللہ عنہ
حضرت مزیدہ بن جابر رضی اللہ عنہ
حضرت مستنیر بن صعصعہ رضی اللہ عنہ
حضرت مسلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت مسہر بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت مسیس بن صعصعہ رضی اللہ عنہ
حضرت مضرس بن سفیان رضی اللہ عنہ
حضرت مطعم بن عبیدۃ البلوی رضی اللہ عنہ
حضرت معبد بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت معتب بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت معدیکرب بن رفاعۃ رضی اللہ عنہ
حضرت مکحول (غلام رسول ﷺ) رضی اللہ عنہ
حضرت مکبلۃ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ
حضرت مکیتل اللیثی رضی اللہ عنہ

حضرت مخیس بن حکیم رضی اللہ عنہ
حضرت مدلوک ابوسفیان الفزاری رضی اللہ عنہ
حضرت مرزوق الصیقلی رضی اللہ عنہ
حضرت مروان بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حضرت مسیّب بن حزن رضی اللہ عنہ
حضرت مقدام بن معدیکرب رضی اللہ عنہ
حضرت معیقب بن ابوفاطمہ رضی اللہ عنہ
حضرت مطیع بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت مسلم قرشی رضی اللہ عنہ
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ
حضرت مخارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت مسافح الدیلی رضی اللہ عنہ
حضرت مسرع بن یاسر رضی اللہ عنہ
حضرت مسردع بن سندر رضی اللہ عنہ
حضرت مسعود بن زرارہ رضی اللہ عنہ
حضرت مضرح بن جدالہ رضی اللہ عنہ
حضرت مطرف بن خالد الباہلی رضی اللہ عنہ
حضرت مطیع بن عامر رضی اللہ عنہ
حضرت معبد بن خلید رضی اللہ عنہ
حضرت معدان بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ
حضرت معرض بن معیقب رضی اللہ عنہ
حضرت مکرم الغفاری رضی اللہ عنہ
حضرت مکنف بن زید رضی اللہ عنہ
حضرت ملحان بن زیاد رضی اللہ عنہ

حضرت ملیل بن عبدالکریم رضی اللہ عنہ

حضرت منبہ ابویعلی رضی اللہ عنہ

حضرت منجاب بن راشد رضی اللہ عنہ

حضرت منصور بن لبید رضی اللہ عنہ

حضرت منقع بن مالک رضی اللہ عنہ

حضرت منہال ابن اوس رضی اللہ عنہ

حضرت مہجع رضی اللہ عنہ

حضرت مضرم بن وہب رضی اللہ عنہ

حضرت مورق بن حذیفۃ رضی اللہ عنہ

حضرت مونس بن فضالۃ رضی اللہ عنہ

حضرت مبسرۃ ابوطیبۃ رضی اللہ عنہ

حضرت مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ

حضرت منذر بن ابی اسید رضی اللہ عنہ

حضرت معن بن یزید رضی اللہ عنہ

حضرت محجن بن ادرع رضی اللہ عنہ

حضرت مدعم حبشی رضی اللہ عنہ

حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ

حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ

حضرت معمر بن عثمان رضی اللہ عنہ

حضرت ابومسعود بن عمرو رضی اللہ عنہ

حضرت مابور الخصی رضی اللہ عنہ

حضرت منبعث رضی اللہ عنہ

حضرت منتجع رضی اللہ عنہ

حضرت منصور بن عمر رضی اللہ عنہ

حضرت منقذ بن خنیس رضی اللہ عنہ

حضرت منکدر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

حضرت منیب رضی اللہ عنہ

حضرت مصران رضی اللہ عنہ

حضرت معین بن ہثیم رضی اللہ عنہ

حضرت موسیٰ بن حارث رضی اللہ عنہ

حضرت موہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

حضرت میمون بن یامین رضی اللہ عنہ

حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ عنہ

حضرت مسور بن یزید رضی اللہ عنہ

حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ

حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ

حضرت مرداس بن مالک رضی اللہ عنہ

حضرت مخرفہ عبدی رضی اللہ عنہ

حضرت مروان بن حکم رضی اللہ عنہ

حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابومرثد بن حصین رضی اللہ عنہ

حضرت ابومالک بن عاصم رضی اللہ عنہ

حضرت مویہنہ رضی اللہ عنہ

ن

حضرت نافع بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ
حضرت نعیمان بن شریک رضی اللہ عنہ
حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ
حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ
حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ عنہ
حضرت نبیشۃ الخیر رضی اللہ عنہ
حضرت نعیک بن اوس رضی اللہ عنہ
حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ
حضرت ابونجیح رضی اللہ عنہ
حضرت ابونیقہ بن علقمہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابونحیلہ الجبلی رضی اللہ عنہ
حضرت ابونملۃ الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت ناشرہ بن سوید رضی اللہ عنہ
حضرت نبہان الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت نویرۃ رضی اللہ عنہ
حضرت نبیہ بن حذیفۃ رضی اللہ عنہ
حضرت نذیر ابومریم رضی اللہ عنہ
حضرت نصر بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت نصیر رضی اللہ عنہ
حضرت نضرۃ بن اکثم رضی اللہ عنہ
حضرت نہیر بن ہیثم رضی اللہ عنہ

حضرت نافع بن خدیج رضی اللہ عنہ
حضرت نعیم بن اسود رضی اللہ عنہ
حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ
حضرت ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ
حضرت ابونائلہ رضی اللہ عنہ
حضرت نعیم بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ
حضرت نوح بن مخلد رضی اللہ عنہ
حضرت نیار بن مسعود رضی اللہ عنہ
حضرت ابونہیک رضی اللہ عنہ
حضرت ابونجم رضی اللہ عنہ
حضرت ابونصر رضی اللہ عنہ
حضرت نعیم بن ربیعہ رضی اللہ عنہ
حضرت ناعم بن اجیل رضی اللہ عنہ
حضرت نہشل بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت نبیط بن جابر رضی اللہ عنہ
حضرت نجید بن عمران رضی اللہ عنہ
حضرت نسر بن عنبس رضی اللہ عنہ
حضرت نصیب رضی اللہ عنہ
حضرت نضر بن سفیان رضی اللہ عنہ
حضرت نضلۃ بن اکثم رضی اللہ عنہ
حضرت نضیر بن حارث رضی اللہ عنہ

حضرت نظیر المزنی رضی اللہ عنہ
حضرت نقب بن فروۃ رضی اللہ عنہ
حضرت نمیر بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت نمیلۃ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

حضرت نعامۃ ابو یزید رضی اللہ عنہ
حضرت نمط بن قیس رضی اللہ عنہ
حضرت نمیر بن خرشۃ رضی اللہ عنہ
حضرت نہار بن حارث رضی اللہ عنہ

و

حضرت ابو وداعہ القرشی رضی اللہ عنہ
حضرت واسع السلمی رضی اللہ عنہ
حضرت وادع رضی اللہ عنہ
حضرت وبر بن مشھر رضی اللہ عنہ
حضرت وحوح بن اسلت رضی اللہ عنہ
حضرت ودان بن زر رضی اللہ عنہ
حضرت ودفۃ بن ایاس رضی اللہ عنہ
حضرت وردان بن اسماعیل رضی اللہ عنہ
حضرت وسیم البجری رضی اللہ عنہ
حضرت وفرۃ بن نافر رضی اللہ عنہ
حضرت وکیع بن مالک رضی اللہ عنہ
حضرت ابو وائل شفیق رضی اللہ عنہ
حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ
حضرت وھب بن عمیر رضی اللہ عنہ
حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ
حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ
حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ
حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ

حضرت وازم بن ذر رضی اللہ عنہ
حضرت وازع ابو زرتح رضی اللہ عنہ
حضرت واثلۃ بن خطاب رضی اللہ عنہ
حضرت ابو الورد الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت وداعۃ بن ابی زید رضی اللہ عنہ
حضرت ودیعۃ بن عمرو رضی اللہ عنہ
حضرت ورد بن خالد رضی اللہ عنہ
حضرت وزر بن سدوس رضی اللہ عنہ
حضرت وعلۃ بن یزید رضی اللہ عنہ
حضرت وقاص بن قمامۃ رضی اللہ عنہ
حضرت ابو واثلہ الہذلی رضی اللہ عنہ
حضرت ابو وحوح الانصاری رضی اللہ عنہ
حضرت وھب بن عبداللہ العامری رضی اللہ عنہ
حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ
حضرت ولید بن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ
حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ
حضرت ابو وھب رضی اللہ عنہ
حضرت ولید ابن ولید رضی اللہ عنہ

حضرت واقد بن حارث رضی اللہ عنہ

حضرت ابو واقد بن عوف رضی اللہ عنہ

ہ

حضرت ہلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ

حضرت ہاشم بن صبابۃ رضی اللہ عنہ

حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ

حضرت ہبار بن اسود رضی اللہ عنہ

حضرت ہبیل بن کعب رضی اللہ عنہ

حضرت ہزیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ

حضرت ہرمز بن ماہان الفارسی رضی اللہ عنہ

حضرت ہلب الطائی رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہند الانصاری رضی اللہ عنہ

حضرت ہمیل بن الدمون رضی اللہ عنہ

حضرت ہود بن اجمل رضی اللہ عنہ

حضرت ہیاج بن مصارج رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہاشم لباعتبہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہبیرۃ بن حارث رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہدم بن الحضرمی رضی اللہ عنہ

حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ

حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہریرہ (نام عبدالرحمن بن صخر ہے) رضی اللہ عنہ

حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ

حضرت ہانی بن یزید بن مقدام رضی اللہ عنہ

حضرت ہبیرۃ بن شبل رضی اللہ عنہ

حضرت ہدم بن مسعود رضی اللہ عنہ

حضرت ہرم بن خنبش رضی اللہ عنہ

حضرت ہزیل بن خنیس رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہلال التیمی رضی اللہ عنہ

حضرت ہمام بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ

حضرت ہند بن حارثۃ رضی اللہ عنہ

حضرت ہوذۃ بن قیس رضی اللہ عنہ

حضرت ہیثم بن ابو قیس رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہانی رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہدبہ الانصاری رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہذیل رضی اللہ عنہ

حضرت ہزال بن ذباب رضی اللہ عنہ

ی

حضرت یاسر بن سوید رضی اللہ عنہ

حضرت یحنس بن وبرۃ رضی اللہ عنہ

حضرت یثربی بن عوف رضی اللہ عنہ

حضرت یسار بن ازیہر رضی اللہ عنہ

حضرت یعفر بن عریب رضی اللہ عنہ	حضرت یعقوب بن زمعۃ رضی اللہ عنہ
حضرت یعمر الاسعدی رضی اللہ عنہ	حضرت یعیش بن طخفۃ رضی اللہ عنہ
حضرت یونس ابومحمد الاوسی رضی اللہ عنہ	حضرت ابو یزید بن عمیر رضی اللہ عنہ
حضرت ابوالیسع رضی اللہ عنہ	حضرت ابوالیسر المعادی رضی اللہ عنہ
حضرت ابوالیقظان رضی اللہ عنہ	حضرت ابو یونس رضی اللہ عنہ
حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ عنہ	حضرت یمان بن جابر رضی اللہ عنہ
حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ	حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت یحییٰ بن خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ	حضرت یحییٰ بن اسید رضی اللہ عنہ
حضرت یزید بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ	حضرت یسیرا انصاری رضی اللہ عنہ
حضرت یزید بن عامر رضی اللہ عنہ	حضرت ابوالیسیر انصاری رضی اللہ عنہ

آنحضرت ﷺ کے اہل بیت کرام کے نام

ازواج مطہرات

ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا	ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا	ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا
ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا	ام المومنین حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ عنہا
ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا	ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا
ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب ، رضی اللہ عنہا	ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا
ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہا	ام المومنین حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا

صاحبزادے

حضرت قاسم رضی اللہ عنہ	حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ	(بقول بعض حضرت طیب ، حضرت طاہر)

صاحبزادیاں

حضرت زینب رضی اللہ عنہا	حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا

نواسے

حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ	حضرت علی بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ
حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ	حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ

نواسیاں

حضرت امامہ بنت ابوالعاص رضی اللہ عنہا	حضرت رقیہ بنت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہا
حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا	حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا

چند صحابیہ عورتوں کے نام

ا

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا
حضرت انیسہ بنت خبیب رضی اللہ عنہا
حضرت امامۃ بنت ابوالعاص رضی اللہ عنہا
حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا
حضرت ام ایاس بنت ابی الحیر رضی اللہ عنہا
حضرت آسیۃ بنت الفرج رضی اللہ عنہا
حضرت اشیلۃ بنت راشد رضی اللہ عنہا
حضرت اروی بنت انیس رضی اللہ عنہا
حضرت امیۃ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا
حضرت ام ابی امامہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام اوس البھزیہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام الازہر العائشۃ رضی اللہ عنہا

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا
حضرت امامۃ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام اسید الانصاریہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہا
حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا
حضرت آمنہ بنت رقیش رضی اللہ عنہا
حضرت ادام بنت الجموح رضی اللہ عنہا
حضرت امۃ بنت حمزۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام ابان بنت عتبہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام انس بنت عمرو رضی اللہ عنہا
حضرت ام ایوب بنت مسعود رضی اللہ عنہا

ب

حضرت ام بردہ بنت منذو رضی اللہ عنہا	حضرت بادیۃ بنت غیلان رضی اللہ عنہا
حضرت بثیتۃ بنت نعمان رضی اللہ عنہا	حضرت بحسینہ بنت حارث رضی اللہ عنہا
حضرت بدیلۃ بنت مسلم رضی اللہ عنہا	حضرت برزۃ بنت مسعود رضی اللہ عنہا
حضرت برکتۃ بنت ثعلبۃ رضی اللہ عنہا	حضرت برۃ بنت عامر رضی اللہ عنہا
حضرت بریدۃ بنت بشر رضی اللہ عنہا	حضرت ام بشر رضی اللہ عنہا
حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا	حضرت بسرہ بنت صفوان ام جندب رضی اللہ عنہا
حضرت بہیہ بنت عامر رضی اللہ عنہا	حضرت بریقۃ بنت ابی حرثۃ رضی اللہ عنہا
حضرت بزیعۃ بنت ابی خارجۃ رضی اللہ عنہا	حضرت بشرۃ بنت ابی خارجۃ رضی اللہ عنہا
حضرت بشرۃ بنت ملیل رضی اللہ عنہا	حضرت بشیرۃ بنت ثابت رضی اللہ عنہا
حضرت ام بجید رضی اللہ عنہا	حضرت بنت خفاف رضی اللہ عنہا
حضرت بناۃ رضی اللہ عنہا	حضرت ام البنین بنت عینہ رضی اللہ عنہا
حضرت بیضاء ام سہیل رضی اللہ عنہا	حضرت ام بلال بنت ہلال رضی اللہ عنہا

ت

حضرت تیما بنت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا	حضرت تماضر بنت عمرو رضی اللہ عنہا
حضرت توامۃ بنت امیہ رضی اللہ عنہا	حضرت تویلۃ بنت اسلم رضی اللہ عنہا
حضرت تملک العبدریۃ رضی اللہ عنہا	

ث

حضرت ام ثابت بن جابر رضی اللہ عنہا	حضرت ام ثوبان رضی اللہ عنہا
حضرت ثبیتۃ بنت ضحاک رضی اللہ عنہا	حضرت ثبیتۃ بنت سلیط رضی اللہ عنہا
حضرت ام ثعلبہ بنت زید رضی اللہ عنہا	حضرت ثویبۃ رضی اللہ عنہا

ج

حضرت ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ عنہا	حضرت جویریہ بنت المجلل رضی اللہ عنہا
حضرت ام الجلاس رضی اللہ عنہا	حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا
حضرت جدامہ بنت جندل رضی اللہ عنہا	حضرت جمیلہ بنت عمر رضی اللہ عنہا
حضرت جمیعۃ بنت حمام رضی اللہ عنہا	حضرت جمیمۃ بنت صفی رضی اللہ عنہا
حضرت جہدمۃ زوجہ بشیر رضی اللہ عنہا	حضرت جثامۃ بنت المزینۃ رضی اللہ عنہا
حضرت جبلۃ بنت المصفح رضی اللہ عنہا	حضرت جذامۃ بنت حارث رضی اللہ عنہا
حضرت جرباء بنت قسامۃ رضی اللہ عنہا	حضرت جسرۃ بنت دجاجۃ رضی اللہ عنہا
حضرت جعدۃ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا	حضرت جمانۃ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا
حضرت جمرۃ بنت عبداللہ	حضرت جمیل بنت یسار رضی اللہ عنہا

ح

حضرت حبانۃ ام عامر رضی اللہ عنہا	حضرت احت خوات بن جبیر رضی اللہ عنہا
حضرت حبۃ بنت عمرو رضی اللہ عنہا	حضرت حبشیہ الخزاعیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت حبیبۃ بنت اسعد رضی اللہ عنہا	حضرت حذامۃ بنت حارث رضی اللہ عنہا
حضرت حرملۃ بنت عبید رضی اللہ عنہا	حضرت حزمۃ بنت قیس رضی اللہ عنہا
حضرت حسنۃ ام شرجیل رضی اللہ عنہا	حضرت حقۃ بنت عمرو رضی اللہ عنہا
حضرت حکیمۃ بنت غیلان رضی اللہ عنہا	حضرت حمامۃ ام بلال رضی اللہ عنہا
حضرت حمرۃ بنت اوس رضی اللہ عنہا	حضرت حمیدۃ ام جلیل رضی اللہ عنہا
حضرت حمیمہ بنت صیفی رضی اللہ عنہا	حضرت حمیمۃ بنت ابی طلحۃ رضی اللہ عنہا
حضرت حویصلۃ بنت قطبۃ رضی اللہ عنہا	حضرت حیۃ بنت ابی حیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام الحارث الانصاریہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام حارثہ بنت وہب رضی اللہ عنہا
حضرت ام حبیب بنت تمامہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام حبان بنت عامر رضی اللہ عنہا

حضرت ام حبیبہ بنت نباتہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام حذیفۃ بنت الیمان رضی اللہ عنہا
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا
حضرت ام حفید رضی اللہ عنہا	حضرت ام الحکم بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا
حضرت ام حکیم بنت عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہا	حضرت ام حصین رضی اللہ عنہا
حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا	حضرت ام حفیہ رضی اللہ عنہا
حضرت حولاء بنت تویت رضی اللہ عنہا	حضرت حواء بنت یزید رضی اللہ عنہا
حضرت ام حسان بنت شداد رضی اللہ عنہا	حضرت ام الحصین بنت اسحق رضی اللہ عنہا

خ

حضرت خالدہ بنت اسد رضی اللہ عنہا	حضرت خدامۃ بنت جندل رضی اللہ عنہا
حضرت خدیجۃ بنت الحصین رضی اللہ عنہا	حضرت خرفاء زوجہ سودا رضی اللہ عنہا
حضرت خرنیق بنت الحصین رضی اللہ عنہا	حضرت خزیمۃ بنت جہم رضی اللہ عنہا
حضرت خضرۃ (خادمہ النبی ﷺ) رضی اللہ عنہا	حضرت خلیسۃ بنت قیس رضی اللہ عنہا
حضرت خمیلۃ بنت ابی صعصعۃ رضی اللہ عنہا	حضرت خیرۃ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام الخیر (والدہ ابوبکر صدیق) رضی اللہ عنہا	حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا
حضرت ام خالد رضی اللہ عنہا	حضرت خنساء رضی اللہ عنہا
حضرت خلیدہ بنت الانصاریہ رضی اللہ عنہا	حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا
حضرت خنسہ بنت عمرو رضی اللہ عنہا	

د ذ

حضرت دجانۃ بنت اسماء رضی اللہ عنہا	حضرت ام دحاح زوجہ ابی دحاح رضی اللہ عنہا
حضرت درہ بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا
حضرت درہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا	حضرت سیدہ ذرّۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام ذر زوجہ ابی ذر رضی اللہ عنہا	حضرت ام ابی ذر الغفاریہ رضی اللہ عنہا

ر

حضرت ربیع بنت نصر رضی اللہ عنہا
حضرت ام رومان بنت عامر رضی اللہ عنہا
حضرت رائعہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا
حضرت ربیع بنت طفیل رضی اللہ عنہا
حضرت رزینہ (خادمہ رسول ﷺ) رضی اللہ عنہا
حضرت رغیبہ بنت سہل رضی اللہ عنہا
حضرت رفاعۃ بنت ثارت رضی اللہ عنہا
حضرت رملۃ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا
حضرت روضۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام رافع بنت عثمان رضی اللہ عنہا
حضرت ام رزن بنت سواد رضی اللہ عنہا
حضرت رمثۃ بنت عمرو رضی اللہ عنہا
حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا

حضرت رمیصاء بنت ملحان رضی اللہ عنہا
حضرت رائطہ بنت حارث رضی اللہ عنہا
حضرت رباب بنت نعمان رضی اللہ عنہا
حضرت رجاء الغنویہ رضی اللہ عنہا
حضرت رضوی بنت کعب رضی اللہ عنہا
حضرت رقیقہ بنت کعب رضی اللہ عنہا
حضرت رفیدۃ الانصاریہ رضی اللہ عنہا
حضرت رمیثۃ بنت حکیم رضی اللہ عنہا
حضرت ربطہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا
حضرت ام ربعہ بنت خدام رضی اللہ عنہا
حضرت ام رملۃ القرشیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام ربیع بنت اسلم رضی اللہ عنہا
حضرت ریحانہ بنت زید بن عمرو رضی اللہ عنہا

ز

حضرت زینب بنت حمید رضی اللہ عنہا
حضرت زنیرہ الرومیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت زینب بنت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہا
حضرت رغیبۃ بنت زرارۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام زیاد رضی اللہ عنہا
حضرت زینب رضی اللہ عنہا
حضرت زینب بنت ابو معاویہ رضی اللہ عنہا

حضرت ام زفر رضی اللہ عنہا
حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا
حضرت زرینہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام زبیر رضی اللہ عنہا
حضرت ام زید بنت السکن رضی اللہ عنہا
حضرت زیدہ (باندی عمر فاروق) رضی اللہ عنہا

س

حضرت سائبۃ (خادمہ نبی کریم ﷺ) رضی اللہ عنہا	حضرت سارۃ رضی اللہ عنہا
حضرت سابنت الصلت رضی اللہ عنہا	حضرت سبیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہا
حضرت سخبر بنت تمیم رضی اللہ عنہا	حضرت سدوس بنت قطبۃ رضی اللہ عنہا
حضرت سدیسہ (خادمہ حفصہ) رضی اللہ عنہا	حضرت سعاد بنت رافع رضی اللہ عنہا
حضرت سعدہ بنت قمامۃ رضی اللہ عنہا	حضرت سعدی بنت اوس رضی اللہ عنہا
حضرت سعیدۃ بنت بشیر رضی اللہ عنہا	حضرت سعیرۃ الاسدیہ رضی اللہ عنہا
حضرت سکینہ بنت ابی وقاص رضی اللہ عنہا	حضرت سلافۃ بنت البراء رضی اللہ عنہا
حضرت سخی بنت قیس رضی اللہ عنہا	حضرت سلامہ بنت مسعود رضی اللہ عنہا
حضرت ام سالم الاشجعیہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام سارۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام سائب الانصاریہ رضی اللہ عنہا	حضرت سخیلۃ بنت عبیدہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام سباع رضی اللہ عنہا	حضرت ام سبرۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام سعد بنت زید رضی اللہ عنہا	حضرت سعید بنت عمرو رضی اللہ عنہا
حضرت ام سفیان رضی اللہ عنہا	حضرت ام سلمۃ بنت یزید رضی اللہ عنہا
حضرت ام سلمٰی بنت ابی امیۃ رضی اللہ عنہا	حضرت ام سنان رضی اللہ عنہا
حضرت سبیعہ رضی اللہ عنہا	حضرت سلمٰی رضی اللہ عنہا
حضرت سہیمہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام سلیم بنت سمیم رضی اللہ عنہا
حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ عنہا	حضرت ام سلیط رضی اللہ عنہا
حضرت سفانہ بنت حاتم طائی رضی اللہ عنہا	حضرت سُمَیَّہ بنت خباط رضی اللہ عنہا
حضرت ام سماک بنت فضالۃ رضی اللہ عنہا	حضرت ام سمرۃ بنت جندب رضی اللہ عنہا
حضرت ام سنان الاسلمیۃ رضی اللہ عنہا	حضرت ام سنبلۃ الاسلمیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام سوردۃ بنت ربیع رضی اللہ عنہا	حضرت ام سہل بنت نعمان رضی اللہ عنہا
حضرت ام سہلۃ زوجہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہا	حضرت ام سیف رضی اللہ عنہا

ش

حضرت شجیرۃ بنت تمیم رضی اللہ عنہا
حضرت شراف بنت خلیفہ رضی اللہ عنہا
حضرت شرفۃ بنت حارث رضی اللہ عنہا
حضرت شریرۃ بنت حارث رضی اللہ عنہا
حضرت شفیرۃ الاسدیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت شقیقہ بنت مالک رضی اللہ عنہا
حضرت شموس بنت عامر رضی اللہ عنہا
حضرت شمیلۃ بنت حارث رضی اللہ عنہا
حضرت شہیدۃ الانصاریہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام شباث رضی اللہ عنہا
حضرت ام شریک بنت جابر رضی اللہ عنہا
حضرت ام شیبۃ الاسدیہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام شرید رضی اللہ عنہا
حضرت ام شرجیل بنت فروۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام شبیب زوجہ ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہا
حضرت شفاء بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام شریک غزیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام شریک انصاریہ رضی اللہ عنہا
حضرت شیما بنت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا

ص

حضرت ام صابر بنت نعیم رضی اللہ عنہا
حضرت ام صبیح زوجہ سعید النجاشی رضی اللہ عنہا
حضرت ام صبیۃ الجھنیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام صعبۃ بنت جبل رضی اللہ عنہا
حضرت صمیۃ اللیثیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ عنہا
حضرت صماء بنت بسر رضی اللہ عنہا
حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا

ض

حضرت ضباء بنت زبیر رضی اللہ عنہا
حضرت ضباعۃ بنت زبیر رضی اللہ عنہا
حضرت ام ضحاک بنت مسعود رضی اللہ عنہا
حضرت ضریبۃ بنت ابی قیس رضی اللہ عنہا
حضرت ام ضمیرۃ رضی اللہ عنہا

ط ظ

حضرت طفیة بنت وہب رضی اللہ عنہا
حضرت طعیمة بنت جریج رضی اللہ عنہا
حضرت ام طارق (خادمہ سعد بن عبادہ) رضی اللہ عنہا
حضرت ام طفیل رضی اللہ عنہا
حضرت ظبیة بنت برأ بن معرور رضی اللہ عنہا

حضرت طلیحة بنت عبید اللہ رضی اللہ عنہا
حضرت طریة (خادمہ حسان بن ثابت) رضی اللہ عنہا
حضرت ام طالب بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا
حضرت ام طلیق رضی اللہ عنہا
حضرت ظبیہ بنت وہب رضی اللہ عنہا

ع

حضرت ام عطیة رضی اللہ عنہا
حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہا
حضرت عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا
حضرت ام عبیس رضی اللہ عنہا
حضرت عائشہ بنت عمیر رضی اللہ عنہا
حضرت عتبة بنت ابی نائلہ رضی اللہ عنہا
حضرت عزة بنت سعد رضی اللہ عنہا
حضرت ام عمر بن خلدة رضی اللہ عنہا
حضرت ام عمرو بنت محمود رضی اللہ عنہا
حضرت ام عیسی بن الجزار رضی اللہ عنہا
حضرت ام عثمان بنت سفیان رضی اللہ عنہا
حضرت ام عفیف بنت سروح رضی اللہ عنہا
حضرت عصمة بنت حبان رضی اللہ عنہا
حضرت عقرب بنت سکن رضی اللہ عنہا
حضرت علیة بنت شریح رضی اللہ عنہا

حضرت ام عبد بنت سود رضی اللہ عنہا
حضرت عمرة بنت رواحہ رضی اللہ عنہا
حضرت عزہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام عمرو زوجہ عثمان رضی اللہ عنہا
حضرت عبادة بنت ابی نائلہ رضی اللہ عنہا
حضرت عذبة بنت زرارة رضی اللہ عنہا
حضرت عصیمة بنت ابی الافلح رضی اللہ عنہا
حضرت ام علی بنت خالد رضی اللہ عنہا
حضرت ام عمیس بنت مسلمة رضی اللہ عنہا
حضرت ام عبس الانصاریة رضی اللہ عنہا
حضرت ام عجرو الخزاعیة رضی اللہ عنہا
حضرت ام العلا الانصاریة رضی اللہ عنہا
حضرت عفرا بنت عبید رضی اللہ عنہا
حضرت عقیلة بنت عبید رضی اللہ عنہا
حضرت عمارة بنت حمزة رضی اللہ عنہا

حضرت عمیرۃ بن ابی الحکم رضی اللہ عنہا	حضرت عویمرۃ بنت عویمر رضی اللہ عنہا
حضرت عیشاء بنت حارث رضی اللہ عنہا	حضرت ام عاصم السوداء رضی اللہ عنہا
حضرت ام عامر بنت سلیم رضی اللہ عنہا	حضرت ام عبداللہ بنت انیس رضی اللہ عنہا
حضرت ام عبدالحمید زوجہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہا	حضرت ام عبدالرحمٰن بن اذنیۃ رضی اللہ عنہا

غ

حضرت غزیۃ بنت جابر رضی اللہ عنہا	حضرت غفیرۃ بنت رباح رضی اللہ عنہا
حضرت غفیلۃ بنت حارث رضی اللہ عنہا	حضرت غمیصاء الانصاریہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام غطیف الہذلیۃ رضی اللہ عنہا	حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا
حضرت غزوہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہا	

ف

حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا	حضرت فارعۃ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا
حضرت فاضلہ الانصاریۃ رضی اللہ عنہا	حضرت فسہم بنت اوس رضی اللہ عنہا
حضرت فکیھمۃ بنت یسار رضی اللہ عنہا	حضرت ام الفزر الصلعیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت فریعہ بنت مالک رضی اللہ عنہا	حضرت ام الفضل بنت عباس رضی اللہ عنہا
حضرت ام فروہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا	حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا
حضرت فاختۃ بنت ولید رضی اللہ عنہا	

ق

حضرت قرۃ العین بنت عبادۃ رضی اللہ عنہا	حضرت قریبۃ بنت ابی قحافہ رضی اللہ عنہا
حضرت قشرۃ بنت رواس رضی اللہ عنہا	حضرت قصواء جدۃ قاسم بن غنام رضی اللہ عنہا
حضرت قہطم بنت القمۃ رضی اللہ عنہا	حضرت ام قرۃ بنت دعموس رضی اللہ عنہا
حضرت ام قرشع رضی اللہ عنہا	حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا

حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا	حضرت قتیلہ زوجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا

ک

حضرت ام کلثوم بنت علی (زوجہ عمر فاروق) رضی اللہ عنہا	حضرت ام کعب رضی اللہ عنہا
حضرت کبشۃ بنت رافع رضی اللہ عنہا	حضرت کبیر بنت سفیان رضی اللہ عنہا
حضرت کریمۃ بنت ابی حدرد رضی اللہ عنہا	حضرت کعیبہ بنت سعد رضی اللہ عنہا
حضرت کلبۃ بنت یثربی رضی اللہ عنہا	حضرت کلیبہ بنت برشن رضی اللہ عنہا
حضرت کلثم النجاریہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام کبشۃ القضاعیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام کثیر بنت یزید رضی اللہ عنہا	حضرت ام الکرام السلمیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام کجۃ زوجہ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہا	حضرت ام کلثوم بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا

ل

حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا	حضرت ام العلاء رضی اللہ عنہا
حضرت لبینہ رضی اللہ عنہا	حضرت لبا بنت ثابت رضی اللہ عنہا
حضرت لبنی بنت الخطیم رضی اللہ عنہا	حضرت ام لیلی بنت رواحہ رضی اللہ عنہا
حضرت لیلی بنت ابی خثمہ رضی اللہ عنہا	

م

حضرت ماریہ ام رباب رضی اللہ عنہا	حضرت ماویہ رضی اللہ عنہا
حضرت محبۃ بنت ربیع رضی اللہ عنہا	حضرت مجنۃ رضی اللہ عنہا
حضرت محیاۃ بنت خالد رضی اللہ عنہا	حضرت مختارۃ بنت ابی نائلہ رضی اللہ عنہا
حضرت مرضیۃ رضی اللہ عنہا	حضرت مرزبانہ زوجہ اسود رضی اللہ عنہا
حضرت مریم بنت ایاس رضی اللہ عنہا	حضرت مزیدۃ العصریۃ رضی اللہ عنہا

حضرت مسیکہ (جاریۃ عبداللہ) رضی اللہ عنہا	حضرت مطیعۃ بنت نعمان رضی اللہ عنہا
حضرت معاذۃ زوجہ الاعشی رضی اللہ عنہا	حضرت مندوس بنت عبادۃ رضی اللہ عنہا
حضرت منیعۃ ام قریبۃ رضی اللہ عنہا	حضرت ام مالک بہزیہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام معبد بنت کعب رضی اللہ عنہا	حضرت ام منذر رضی اللہ عنہا
حضرت ام مبشر بنت برا رضی اللہ عنہا	حضرت ام مسطح رضی اللہ عنہا
حضرت امیمہ بنت نعمان رضی اللہ عنہا	حضرت ملیکہ بنت کعب رضی اللہ عنہا
حضرت میمونہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا	حضرت ام مجحن رضی اللہ عنہا
حضرت ام محمد بن حاطب رضی اللہ عنہا	حضرت ام مرثد الاسلمیۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام مسلم (خادمۃ صفیۃ) رضی اللہ عنہا	حضرت ام المسیب رضی اللہ عنہا
حضرت ام معاذ الانصاریہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام معقل الاسدیہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام مغیث رضی اللہ عنہا	حضرت ام مغیرۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام منظور بنت محمود رضی اللہ عنہا	حضرت منیع الانصاریہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام معبد بنت خالد رضی اللہ عنہا	حضرت معالمہ بنت خالد رضی اللہ عنہا

ن

حضرت نائلہ زوجہ عثمان رضی اللہ عنہا	حضرت نہدیہ رضی اللہ عنہا
حضرت نبعۃ الحبشیۃ رضی اللہ عنہا	حضرت نبتہ بنت ضحاک رضی اللہ عنہا
حضرت نتیلہ بنت قیس رضی اللہ عنہا	حضرت ندبہ (مولاۃ میمونہ) رضی اللہ عنہا
حضرت نسیبہ بنت ابی طلحہ رضی اللہ عنہا	حضرت نسیکۃ ام عمرو بن جلاس رضی اللہ عنہا
حضرت نعامہ (امراۃ شماس) رضی اللہ عنہا	حضرت نعمی بنت جعفر رضی اللہ عنہا
حضرت نفیسہ (یعلی بن امیہ کی بہن) رضی اللہ عنہا	حضرت نہیۃ (ام ولد عمر بن خطاب) رضی اللہ عنہا
حضرت نوار بنت حارث رضی اللہ عنہا	حضرت نوبۃ رضی اللہ عنہا
حضرت نویلہ بنت اسلم رضی اللہ عنہا	حضرت ام نائلہ رضی اللہ عنہا
حضرت ام نبیط الانصاریہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام نیار (سعد بن زید کی بہن) رضی اللہ عنہا

و

حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا	حضرت ودۃ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا
حضرت وسناء بنت صلت رضی اللہ عنہا	حضرت وصیلہ بنت وائل رضی اللہ عنہا
حضرت وقصاء بنت سعود رضی اللہ عنہا	حضرت ام ورقۃ بنت حمزۃ رضی اللہ عنہا
حضرت ام الولید بنت عمر رضی اللہ عنہا	حضرت ام وہب بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا

ہ

حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا	حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا
حضرت ام ہشام رضی اللہ عنہا	حضرت ہالۃ (ہمشیرہ حضرت خدیجہ) رضی اللہ عنہا
حضرت ام ہاشم رضی اللہ عنہا	حضرت ہریرۃ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا
حضرت ہزیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا	حضرت ہمینہ بنت خالد رضی اللہ عنہا

ی

حضرت یسیرہ بنت ملیل رضی اللہ عنہا	حضرت ام یاسر رضی اللہ عنہا
حضرت ام یحییٰ بنت یعلی رضی اللہ عنہا	حضرت ام یزید بنت حارث رضی اللہ عنہا
حضرت ام یقظہ زوجہ سلیط رضی اللہ عنہا	

الباب الثالث

اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ

تابعین کرام، مفسرین، محدثین اور مجاہدین کے نام

چند تابعین کرامؒ کے نام

ا

- حضرت ابان ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت اسحاق بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت احمد بن زکریا بن فارس رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابوامامہ اسعد بن سہل رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ارزق رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ایوب بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عبدالرحمٰن بن ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابویونس رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت انس بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ایمن رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابن ابی عمرہ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابوالاسود رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابوتمیم رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابوجمرہ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابراہیم بن عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابوبکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت احنف بن قیس التمیمی رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت الاسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابوقلابہ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت امیہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ایوب بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت الاعرج رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت اسود بن بلال رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابراہیم بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابواسحاق بن موسی رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابوایوب المراغی رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابوالاحوص رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابراہیم بن میسر رحمۃ اللہ علیہ

ب ت ث

حضرت بشر بن مروان رحمۃ اللہ علیہ

حضرت بلال بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوبکر بن عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ

حضرت بلال بن یسار رحمۃ اللہ علیہ

حضرت بشر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوبکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوالخزمی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوتمیمہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ثمامہ بن حزن رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ثابت بن ابی صفیہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت بسر بن محجن رحمۃ اللہ علیہ

حضرت بشر بن ابی مسعود رحمۃ اللہ علیہ

حضرت بجالہ بن عبدہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت بہز بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوبرادہ عامر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوبکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت بلال بن ابی درداء رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ثابت بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ثور بن یزید رحمۃ اللہ علیہ

ج ح

حضرت جز بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ

حضرت جمیع بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوالجویریہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوالجوازاء رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حماد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حرام بن سعید رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حبیب بن سالم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت جمیع بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوجعفر قاری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حمید بن عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حارث بن سوید رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حارث بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حجاج بن حسان رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ
حضرت حسن بن علی بن راشد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت حفص بن عاصم بن عمر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت حکیم بن اثرم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوحیہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت حارث بن مضرب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت حر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ
حضرت حکیم بن معاویہ قیشری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت حنظلہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ
حضرت حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوحرہ رحمۃ اللہ علیہ

خ

حضرت خارجہ بن الصلت رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خشف بن مالک رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خالد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوخزامہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خالد بن مہاجر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خثیمہ بن عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خارجہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خالد بن العاص رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خرشہ بن حر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوخلدہ خالد بن دینار رحمۃ اللہ علیہ

د ذ ر

حضرت داؤد ابن الحصین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت داؤد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ربیع بن خثیم ابویزید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابن الدیلمی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوذکوان مدنی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابورجاء عمران بن تمیم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت رویفع ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ

ز

حضرت زبیر عربی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت زہیر ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوزرعہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت زبیر عربی نمیری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت زیاد بن کسیب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت زہرہ بن معبد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت زرارہ بن ابی اوفی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت زیاد بن حدیر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت زید بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت زید بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوزبیر محمد بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ

س

حضرت سعید ابن مسیّب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوسلمہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سعید ابن ابی ہندہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سعید ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سعید بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سفیا بن دینار رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سعید بن ابی الحسن رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سعید بن حارث رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سعید بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سلیمان بن ابی حثمہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سیار بن سلامہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوسعید المقربی رحمۃ اللہ علیہ

ش

حضرت شفیق ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شریک بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شریح بن عبید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شعبی عامر بن شرجیل رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شریق الہوزنی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیبہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شراحیل ادۃ رحمۃ اللہ علیہ

ص ض

- حضرت صالح بن خوات رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت صالح بن درہم رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت صخر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ضرار بن سرد رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت صفوان ابن سلیم رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت صنابجی یمنی رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ضحاک دیلمی رحمۃ اللہ علیہ

ط

- حضرت طلحہ بن عبداللہ خزیمی رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت طلحہ بن عبداللہ عوف زہری رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت طلحہ بن عبداللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ

ع

- حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عمرو بن عثمان بن عفان رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت علی ابن ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عبداللہ بن مالک رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عطاء سائب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عدی بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عامر بن اسامہ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابوعاصم رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابوالعالیہ رفیع رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عامر بن سعد رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عدی بن عدی رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عیسیٰ بن یونس رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت ابوعمیر بن انس رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عبدالاعلی رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت عبداللہ بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبداللہ بن موہب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبداللہ بن ابی قیس رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبداللہ بن عصم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبدالمالک بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبداللہ المثنیٰ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبداللہ بن عمرو بن حفص رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبداللہ بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبداللہ بن یزید عامری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبداللہ بن عبیداللہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبداللہ بن شہاب خولانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبدالرحمٰن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبدالرحمٰن بن غنم اشعری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبداللہ بن سلامہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبداللہ بن مطیع رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبداللہ بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبیداللہ بن رفاعہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبیداللہ بن عدی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبیداللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عمرو بن سعید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عمرو بن شرید رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عمرو بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوالعلا یزید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبیداللہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبدالرحمٰن بن کعب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عتبہ بن فرقد رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبداللہ بن عکیم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عمروابن شعیب رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عمرابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عثمان بن عطاء رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عثمان بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
حضرت علی بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبدالعزیز بن جریج رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبدالمالک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبدالواحد بن ایمن رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبدالمجید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبدالمہیمن بن عباس رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبدالاعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبدخیر بن یزید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عمرو بن حطان رحمۃ اللہ علیہ

حضرت علی بن یزید لہانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت علی بن زید رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ
حضرت علقمہ بن ابی علقمہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوعبیدہ رحمۃ اللہ علیہ

غ ف

حضرت غالب بن ابی غیلان رحمۃ اللہ علیہ
حضرت غریف رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوغالب حزور رحمۃ اللہ علیہ
حضرت فرافصۃ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابن الفراک محمد بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ
حضرت فروہ بن نوفل رحمۃ اللہ علیہ

ق

حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ
حضرت قیس بن عباد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوقلابہ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت قعقاع بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت قبیصہ بن ذؤیب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت قیس ابن ابی خرام رحمۃ اللہ علیہ
حضرت قطن بن قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ

ک

حضرت کثیر ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ
حضرت کریب ابن ابی مسلم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت کثیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوکریب بن محمد رحمۃ اللہ علیہ

ل

حضرت لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابن لہیعہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت اب الاحوص رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت لبید بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابولبابہ رحمۃ اللہ علیہ

م

حضرت محمد بن حنیفہ (ابن علیؓ) رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن سوقہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن منتشر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن زید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن ابی مجالد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مکحول بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مورق بن مشرج رحمۃ اللہ علیہ
حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مخلد بن خفاف رحمۃ اللہ علیہ
حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوالملیح بن اسامہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مسدد ابن مسرہد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مالک بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مہاجر بن مسمار رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت معدان بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن عمرو بن حسن رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن صباح رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن خالد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن فضل رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مرثد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمود بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ
حضرت موسیٰ بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت معاذ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مغیرہ بن مقسم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مسروق بن اجدع رحمۃ اللہ علیہ
حضرت معاویہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مجاہد جبر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ
حضرت معن بن عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ

ن

حضرت نعمان (امام ابوحنیفہؒ) رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نافع بن سرجس رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نجاشی اصحمہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نبینہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابونضر منذر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نفیع ابورافع الصائغ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت نافع بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نبیہ بن وھب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابونضر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نضر بن شمیل رحمۃ اللہ علیہ

و

حضرت وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ
حضرت وبرہ بن عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ولید بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابووائل شفیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت وحشی بن حرب رحمۃ اللہ علیہ

ہ

حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ہمام بن حارث رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ہلال ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ہزیل بن شرجیل رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوہند یسار رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ہبیرہ بن مریم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ہود بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ہلال ابن علی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ہشیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ہشام بن عمار رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوالہیاج رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ

ی

حضرت یعقوب بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یزید ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یزید بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یزید بن ہرمز رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یحییٰ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یحییٰ بن حصین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یحییٰ بن خلف رحمۃ اللہ علیہ

حضرت یونس بن یزید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یحییٰ بن عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یزید بن اصم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یزید بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یزید بن ابی عبید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یزید بن زالیع رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یعیش بن طخفہ رحمۃ اللہ علیہ

چند تابعین عورتوںؒ کے نام

حضرت ام ابان بنت عثمان رحمۃ اللہ علیہا
حضرت ام حریرہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت حفصہ بنت عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہا
حضرت سمیہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت فاطمہ الصغریٰ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہا
حضرت کریمہ بنت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت معذہ بنت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہا

حضرت ام عمرو بنت عثمان رحمۃ اللہ علیہا
حضرت حسناء صرمیہ بنت معاویہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت زینب بنت کعب رحمۃ اللہ علیہا
حضرت صفیہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت کبشہ بنت کعب ابن مالک رحمۃ اللہ علیہا
حضرت عدیسہ بنت ایبان بن صفی رحمۃ اللہ علیہا
حضرت ام کرز رحمۃ اللہ علیہا
حضرت مغیرہ بنت حسان رحمۃ اللہ علیہا

حضرت ام دردا رحمۃ اللہ علیہا
حضرت ذفرہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت سکینہ بنت امام حسین رحمۃ اللہ علیہا
حضرت زینب بنت مہاجر رحمۃ اللہ علیہا
حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت کثم بنت عمرو القرشیہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت عائشہ بنت عثمان رحمۃ اللہ علیہا
حضرت یکارہ ہلالیہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت خنساء بنت خدام رحمۃ اللہ علیہا
حضرت داریۃ ءالجونیہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت صفیہ بنت شیبہ بن عثمان رحمۃ اللہ علیہا
حضرت معاذہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہا

حضرت مریم بنت عثمان رحمۃ اللہ علیہا
حضرت زرقا بنت عدی رحمۃ اللہ علیہا
حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہا
حضرت بناتہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت زینب بنت مہاجر رحمۃ اللہ علیہا
حضرت عدیسہ بنت اھبان رحمۃ اللہ علیہا
حضرت قمیر بنت عمرو رحمۃ اللہ علیہا
حضرت جسرہ بنت دجاجہ عامری رحمۃ اللہ علیہا
حضرت خیرہ ام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہا
حضرت سمیہ البصریہ رحمۃ اللہ علیہا
حضرت عالیہ بنت ایفع رحمۃ اللہ علیہا

چند بزرگوں، محدثین اور مجاہدین کے نام

ا

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابو عمرو نخیل رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت احمد حواری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ — حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ — حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ — حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ — حضرت مولانا اللہ بخش صدیقی رحمۃ اللہ علیہ

ب

حضرت ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ — حضرت ابوبکر احمد بن ابراہیم جرجانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ — حضرت ابوبکر احمد بن محمد سنی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوبکر احمد بن حسین بیہقی رحمۃ اللہ علیہ — حضرت ابوبکر احمد بن محمد برقانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ — حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ — حضرت مولانا بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ — حضرت ملا بور جان شہید رحمۃ اللہ علیہ

ت ث ج

حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ — حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ — حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ — حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مرزا جان جاناں مظہری شہید رحمۃ اللہ علیہ — حضرت جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ — حضرت خواجہ جلیل احمد مظہری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت پیر جیو محمد جعفر رحمۃ اللہ علیہ

ح

حضرت حسام الدین متقی رحمۃ اللہ علیہ — حضرت حفص بن غیاث النخعی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ — حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوحمزہ محمد بن ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت حسن غزالی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا حبیب الرحمٰن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا حبیب الرحمٰن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ

خ

حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت امیر خسرو دھلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ	حضرت خطابی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شاہ خطیب احمد رحمۃ اللہ علیہ	حضرت خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ

د ذ

حضرت داؤ طائی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابوالحسن علی دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ	حضرت حافظ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ

ر

حضرت مولانا رحیم بخش خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ	حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شاہ رؤف احمد رحمۃ اللہ علیہ	حضرت رزین ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ	

ز

حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ	حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ زاہد رحمۃ اللہ علیہ	حضرت ابوزکریا محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہ	

س

حضرت سراج الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت سعید الدین کاشغر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ	حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ	حضرت سعید احمد اکبرآبادی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا سراج احمد رشیدی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت سمون محبؒ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ	رحمۃ اللہ علیہ

ش

حضرت شرف الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا شرف الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا شیر محمد اعوان رحمۃ اللہ علیہ	حضرت شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا شرف الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا شاہ محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ

ص ض

حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ	حضرت شاہ صفی القدر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ضیاء اللہ تفسیر کشاف رحمۃ اللہ علیہ	حضرت ضیاء الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا ضیاء الرحمٰن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا ضیاء الدین برنی رحمۃ اللہ علیہ

ط ظ ع

حضرت مولانا طیب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت شیخ ظفر اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت حکیم ظہور الاسلام رحمۃ اللہ علیہ	حضرت عثمان خیری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ	حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا عبدالرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت علی بن المسیر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا عبدالحئی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائپوری رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا عطاء المنعم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

غ

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ	حضرت خواجہ غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ

ف

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ	حضرت مولانا فضل الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ

حضرت فتح محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سید فخر الدین
حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ

ق ک

حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت قاضی محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت کبیر یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا قائم الدین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ
حضرت علامہ کرداری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ

م

حضرت محمد بن قاسم شہید رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن ابی نصیر حمیدی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد بن اسلم طوسی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مبارک بن محمد جرزی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد نعیم مسکین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ
حضرت منصور عمار رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد سماک رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت علامہ محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محی الدین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت محمد احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مبارک حقانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خواجہ مطیع الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ مصلح الدین سعدی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب امرتسروی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا محمد موسیٰ جان رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا محمد یعقوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا محبوب علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا محمد اسحٰق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ

ن

حضرت ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خواجہ ناصح الدین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
حضرت نجیب الدین متوکلی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ

و ہ

حضرت وکیع بن جرا رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا شاہ وصی اللہ فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت وحید الزماں خان رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ولی الدین خطیب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ہبیرۃ البصری رحمۃ اللہ علیہ

ی

حضرت یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یعقوب سروری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت ابو یعقوب بن اسحٰق نہر جوان رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یمین الدین شامی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

اسماء حسنیٰ اور اسماء النبی ﷺ کے ساتھ نام رکھنا

اللہ جلِ شانہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ ایسا لفظ ملا کر بچوں کا نام رکھنا کہ جس سے بندے کی طرف سے بندگی و نیاز مندی، یا اللہ جل شانہ، کی حمد و ثنا کا پہلو ظاہر ہوتا ہو ایسا نام رکھنا افضل ہے۔

اسماء حسنیٰ کے ساتھ نام رکھنا

ا احسان اللہ۔ اکرام اللہ۔ امداد اللہ۔ امان اللہ۔ الطاف اللہ۔ انعام اللہ۔
انوار اللہ۔ انصار اللہ۔ اسد اللہ۔ انیس اللہ۔

ب برکت اللہ۔ بشیر اللہ۔ بسیر اللہ۔ برہان الحق۔ باسط اللہ۔ بہاؤ الحق۔

ت تسلیم اللہ۔ تکریم اللہ۔ تنزیل الرحمٰن۔ تنزیل الرحیم۔ تنویر الحق۔ توفیق الرحمٰن۔
توفیق الرحیم۔ توقیر اللہ۔ توکل الٰہی۔

ث ثناء اللہ۔ ثناء الحق۔ ثناء الرحمٰن۔ ثناء الرحیم۔ ثابت الحق۔ ثناء العزیز۔

ج جمیل الرحمٰن۔ جلیل الرحمٰن۔ جرأت الحق۔ جمال اللہ۔ جمال الرحمٰن۔ جمال الرحیم۔
جلیل الحق۔ جلال الحق۔ جلال الودود۔ جبیر الحق۔

ح حماد اللہ۔ حمید اللہ۔ حیات اللہ۔ حفیظ الرحمٰن۔ حفیظ الحق۔ حسیب الرحمٰن۔ حفیظ اللہ۔
حجۃ اللہ۔ حامد الحق۔ حبیب الرحمٰن۔

خ خلیل الرحمٰن۔ خلیق الرحمٰن۔ خطیب الرحمٰن۔ خورشید الحق۔ خیر اللہ۔ خلیل اللہ۔

خطیب الحق۔خادم اللہ۔ خادم الحق۔ خطاب الحق۔

د دین الحق۔دانش الٰہی ۔دیانت الحق۔دعوت الحق۔دبیر الحق۔دوام الحق۔

ذ ذکاءاللہ۔ذکاءالرحمٰن۔ذاکراللہ۔ذکی اللہ۔ذکرالرب۔ذاکرالباری۔

ر رحمت اللہ۔رحمت الٰہی۔رضاءالحق۔رشیدالحق۔رضوان اللہ۔رضی الرحمٰن۔

رفیع اللہ۔ریاض الحق

ز زکی اللہ۔زعیم الحق۔زاہدالحق۔زکی الرحمٰن۔زین الحق۔زہیب الرحمٰن۔

س سیف الرحمٰن۔سلیم الحق۔سرفرازالرحمٰن۔سعادت اللہ۔سراج الحق۔

سعادت الحق۔سفیرالحق۔سلام اللہ۔سلیم اللہ۔سیف اللہ۔

ش شفقت اللہ۔شفیق الرحمٰن۔شکیل الرحمٰن۔شمس الحق۔شاکرالرحمٰن۔شان الحق۔

شاہدالحق۔شجاءالرحمٰن۔شریف اللہ۔

ص صفی اللہ۔صبغۃ اللہ۔صادق الکریم۔صادق الحق۔صفی الرحمٰن۔صدیق الحق۔

ض ضمیرالحق۔ضیاءالحق۔ضیاءالرحمٰن۔ضیاءالرحیم۔ضیاءاللہ۔ضمیراللہ۔

ط طاہراللہ۔طاہرالحق۔طالب الرحمٰن۔طالب الحق۔طہوراللہ۔طبیب الحق۔

ظ ظفرالٰہی۔ظفیرالٰہی۔ظہیرالٰہی۔ظریف الٰہی۔ظفراللہ۔ظفرالحق۔ظفیراللہ۔

ظفیرالحق۔ظل اللہ۔ظہورالحق۔

ع عبدالشکور۔عبدالصبور۔عبدالقدیر۔عبدالعزیز۔عبدالرحمٰن۔عبدالباسط۔عبدالغفور۔

عبدالمومن ۔ عبدالمالک۔عبدالخالق۔عبدالقدوس۔عبدالجبار۔عبدالغفار۔عبدالسلام۔
عابدالحق۔عبادالحق۔عبدالحق۔عبیداللہ۔عتیق الرحمٰن۔عبدالرؤف۔عبدالوہاب۔عبدالحیٔ۔
عبداللہ۔عبدالقیوم۔عبدالحکیم۔عبدالحفیظ۔عبدالسمیع۔عبدالباری۔عبدالواحد۔
عتیق الرحمٰن۔عدیل الرحمٰن۔

غ غالب الحق۔غفران الحق۔غلام اللہ۔غوث الٰہی۔غوث اللہ۔غیاث الرحمٰن۔غیاث الرحیم۔غیورالحق۔

ف فصیح الرحمٰن۔فیاض الرحمٰن۔فیاض الحق۔فیض الحق۔فیض اللہ۔فضل اللہ۔فضل الرحمٰن۔
فیض الباری۔فرحت اللہ۔فاروق الحق۔فتح اللہ۔فخراللہ۔فنافی اللہ۔فہیم الحق۔فقیراللہ۔

ق قمرالحق۔قمراللہ۔قمرالباری۔قمرالٰہی۔قدراللہ۔قدرت اللہ۔قربان الحق۔قوی الحق۔

ک کفیل الرحمٰن۔کفایت اللہ۔کرامت اللہ۔کریم اللہ۔کلیم اللہ۔کفایت الحق۔کلیم الرحمٰن۔
کمال الرحمٰن۔کمال الحق۔کلام اللہ۔کلام الرحمٰن۔کرم الٰہی۔کریم الحق۔کبیراللہ۔

ل لطف اللہ۔لطف الٰہی۔لطیف اللہ۔لطیف الرحمٰن۔لیاقت اللہ۔لقمان الٰہی۔لیث الحق۔

م مجاہدالحق۔مبین الحق۔منیب الرحمٰن۔مجیب الرحمٰن۔مجیب الرحیم۔محبوب الحق۔محبوب الٰہی۔
متین الرحمٰن۔محمودالرحمٰن۔محمودالحق۔مشتاق الٰہی۔مصباح الحق۔معتصم باللہ۔مغیث الحق۔

ن نجیب الرحمٰن۔نجیب الحق۔نثارالحق۔نصراللہ۔نصرالحق۔نصیراللہ۔نصیرالملک۔نظام الحق۔
نذرالحق۔نسیم الرحمٰن۔نعیم الودود۔نعمت اللہ۔نعیم الحق۔نورالکریم۔

و ولی اللہ۔ودودالحق۔ودودالٰہی۔وجیہ الرحمٰن۔وزیرالحق۔وسیم اللہ۔وسیم الباری۔ولایت الرحمٰن۔

ہ ہادی الحق۔ہدایت اللہ۔ہمت اللہ۔ہیبت اللہ۔ہیبت الحق۔ہشام الحق۔ہذام الحق۔

ی یقین الحق۔یقین الرحمٰن۔یقین الرحیم۔یوسف الٰہی۔یاورالحق۔یاورالباری۔یونس الٰہی۔

نبی کریم ﷺ کے نام مبارک "محمد" کیساتھ نام رکھنا

نبی کریم ﷺ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام بچوں کے لئے رکھ سکتے ہیں۔کوئی اچھی صفت ملا کر یا دو مرکب نام ملا کر رکھنا افضل ہے۔

ا محمد احمد۔محمد اجمل۔محمد اکمل۔محمد افضل۔محمد اسلم۔محمد اظہر۔محمد امین۔محمد انور۔

ب محمد برکت۔محمد بشارت۔محمد بلال۔محمد بشیر۔محمد باقر۔محمد بارق۔

ت محمد تہامی۔محمد تسنیم۔محمد تعظیم۔محمد تقی۔محمد تکریم۔محمد تمیم۔

ث محمد ثوبان۔محمد ثابت۔محمد ثاقب۔محمد ثمین۔محمد ثقیف۔محمد ثبات۔

ج محمد جلال۔محمد جبیر۔محمد جمال۔محمد جاسر۔محمد جالب۔محمد جنید۔

ح محمد حبیب۔محمد حسن۔محمد حسین۔محمد حکیم۔محمد حماد۔محمد حنیف۔

خ محمد خاتم۔محمد خطیب۔محمد خطیر۔محمد خلیل۔محمد خلیق۔محمد خرم۔محمد ختشام۔

د محمد دانش۔محمد دین۔محمد داؤد۔محمد دیانت۔محمد دلشاد۔محمد دلدار۔

ذ محمد ذاکر۔محمد ذکی۔محمد ذکاء۔محمد ذیشان۔محمد ذمیر۔محمد ذوار۔

ر محمد راحت۔محمد رافع۔محمد ربانی۔محمد ربیط۔محمد رجب۔محمد رسول۔محمد رشید۔
محمد رضوان۔محمد رفیق۔محمد ریحان۔محمد رحمت

ز محمد زاہد۔محمد زعیم۔محمد زیاد۔محمد زین۔محمد زکی۔محمد زکریا۔

س محمد سرفراز۔محمد سراج۔محمد سعادت۔محمد سعید۔محمد سلام۔محمد سلیم۔محمد سہیل۔محمد سجاد۔

ش محمد شکیل۔محمد شفیع۔محمد شفقت۔محمد شفاعت۔محمد شکور۔محمد شاکر۔محمد شاہد۔محمد شریف۔

ص محمد صادق۔محمد صابر۔محمد صبیح۔محمد صدیق۔محمد صفی۔محمد صنان۔

ض محمد ضیاء۔محمد ضامن۔محمد ضرغام۔محمد ضمیر۔محمد ضبور۔محمد ضابط۔

ط محمد طیب۔محمد طاہر۔محمد طلعت۔محمد طہور۔محمد طلحہ۔محمد طارق۔

ظ محمد ظریف۔محمد ظفیر۔محمد ظفر۔محمد ظہیر۔محمد ظاہر۔محمد ظراف۔محمد ظافر۔

ع محمد عابد۔محمد عادل۔محمد عمر۔محمد عثمان۔محمد علی۔محمد عارف۔محمد عربی۔محمد عتیق۔

محمد عاصم۔محمد عمران۔محمد عظیم

غ محمد غالب۔محمد غازی۔محمد غزنوق۔محمد غشمیر۔محمد غیور۔محمد غضنفر۔

ف محمد فاروق۔محمد فرقان۔محمد فصیح۔محمد فہیم۔محمد فواد۔محمد فیاض۔محمد فیصل۔محمد فیض۔

محمد فرحاد۔محمد فاضل

ق محمد قاسم۔محمد قاضی۔محمد قابل۔محمد قریشی۔محمد قدیس۔محمد قسیم۔

ک محمد کفیل۔محمد کاشف۔محمد کاثر۔محمد کاظم۔محمد کامل۔محمد کلیم۔محمد کمال۔محمد کرامت

ل محمد لقمان۔محمد لیاقت۔محمد لوط۔محمد لادن۔محمد لیث۔محمد لبیب۔

م محمد مبشر۔محمد مجاہد۔محمد محبوب۔محمد مکی۔محمد مدنی۔محمد مزمل۔محمد مسعود۔محمد معصوم۔

محمد معاویہ۔محمد محسن۔محمد مدثر

ن محمد ناظم۔محمد نجیب۔محمد ناصح۔محمد نجید۔محمد نسیم۔محمد نعمان۔محمد نعیم۔محمد نفیس۔
محمد نذیر۔محمد نصیر۔محمد ندیم۔

و محمد وجاہت۔محمد واعظ۔محمد وقار۔محمد واصف۔محمد وسیم۔محمد وقیع۔محمد وصی۔محمد وزیر۔
محمد واثق۔محمد ودود۔

ہ محمد ہاشمی۔محمد ہادی۔محمد ہارون۔محمد ہشام۔محمد ہشیم۔

ی محمد یاسین۔محمد یاسر۔محمد یوسف۔محمد یونس۔محمد یقین۔محمد یحیٰ۔

حضرت محمد ﷺ کے نام مبارک "احمد" کیساتھ نام رکھنا

حضرت محمد ﷺ کا نام مبارک احمد بھی ہے۔بچوں کے نام اس ترتیب سے رکھیں
تو یہ بھی افضل ہے۔

ا اقبال احمد۔انوار احمد۔ابرار احمد۔افضال احمد۔احسان احمد۔الیاس احمد۔

ب بختیار احمد۔بشیر احمد۔بلال احمد۔برکت احمد۔باقر احمد۔

ت تنویر احمد۔تحسین احمد۔تمیم احمد۔توصیف احمد۔تسلیم احمد۔

ث ثروت احمد۔ثقیف احمد۔ثاقب احمد۔ثوبان احمد۔ثروت احمد۔

ج جرار احمد۔جاسر احمد۔جمال احمد۔جریر احمد۔جمیل احمد۔

ح حضور احمد۔حسان احمد۔حصین احمد۔حماد احمد۔حفیظ احمد۔حسین احمد۔

خ خلیل احمد۔خطیب احمد۔خلیق احمد۔خورشید احمد۔خالد احمد۔

د دلیل احمد۔دواس احمد۔دبیر احمد۔داؤد احمد۔

ذ ذکی احمد۔ذواد احمد۔ذیشان احمد۔ذہین احمد۔ذاکر احمد۔

www.besturdubooks.wordpress.com

ر رضی احمد۔رئیس احمد۔رفیق احمد۔رشید احمد۔رفیع احمد۔

ز زاہد احمد۔زبیر احمد۔زوار احمد۔زکی احمد۔زاہد احمد۔

س سعود احمد۔سید احمد۔سعید احمد۔سجاد احمد۔سلطان احمد۔

ش شبیر احمد۔شہید احمد۔شکیل احمد۔شفیق احمد۔شجاع احمد۔

ص صبور احمد۔صباح احمد۔صدیق احمد۔صبیح احمد۔صفی احمد۔صباح احمد

ض ضمیر احمد۔ضیاء احمد۔ضابط احمد۔

ظ ظفر احمد۔ظفیر احمد۔ظہور احمد۔ظریف احمد۔

ع عثمان احمد۔عقیل احمد۔عتیق احمد۔عدیل احمد۔عرفان احمد۔

غ غازی احمد۔غور احمد۔غنی احمد۔

ف فرحاد احمد۔فرخ احمد۔فرید احمد۔فرقان احمد۔

ق قاضی احمد۔قطیف احمد۔قسیم احمد۔قویم احمد۔

ک کابر احمد۔کمال احمد۔کامران احمد۔کاشف احمد۔

ل لائق احمد۔لیث احمد۔لطیف احمد۔لقمان احمد۔

م مسعود احمد۔منظور احمد۔مبشر احمد۔مفضال احمد۔

ن نثار احمد۔ نوید احمد۔ نفیس احمد۔ نذیر احمد۔

و وحید احمد۔ ولی احمد۔ وقار احمد۔ وسیم احمد۔

ہ ہمام احمد۔ ہارون احمد۔ ہشام احمد۔ ہزیر احمد۔

ی یقین احمد۔ یاسر احمد۔ یونس احمد۔ یاسین احمد۔

معنی کے اعتبار سے اچھے نام

بچوں اور بچیوں کے معنی کے اعتبار سے اچھے نام

بچوں کے نام

ا

نام	مَعْنیٰ	نام رکھنے کا طریقہ
ابرار	نیک	ابرارالحق۔ابراراحمد
اسد	شیر	اسداللہ۔اس الرحمٰن
احسان	نیکی کرنا	احسان اللہ۔احسان الٰہی
احسن	نہایت اچھا	محمداحسن۔احسن عثمان
اخلاق	اچھی عادتیں	اخلاق احمد۔اخلاق الحسن
ارشاد	نیک ہدایت دینا	ارشادالحق۔محمدارشاد
احترام	عزت	احترام الحق۔احترام الدین
افتخار	فخر کرنا	افتخارالحق۔افتخارالاسلام
امتیاز	فرق کرنا،تمیز کرنا	امتیاز
اشفاق	مہربان	محمداشفاق،اشفاق حسن
اسماعیل	مسکراہٹ	محمداسماعیل،اسماعیل احمد
اشرف	بزرگ،شریف	محمداشرف،اشرف حسین
اعجاز	معجزہ	محمداعجاز،اعجازاحمد

نام	مَعْنیٰ	نام	مَعْنیٰ
انصار	مددکرنے والا	انس	آوازسننا
احتشام	بزرگی	احترام	عزت

ارشد	ہدایت یافتہ	ابتسام	شگفتگی، مسکراہٹ
انعام	صلہ، کرم ہونا	اسفندیار	حق قدرت
انور	بہت روشن	اطہر	پاکیزہ
اظہار	واضح کرنا	افضال	عنایات، مہربانیاں
افضل	بہترین	اعزاز	مرتبہ، انعام
اکرام	بہت کرم کرنے والا	امتیاز	فرق کرنا
اجمل	نہایت حسین	معد	نیک
اظہر	روشن، واضح	اخلاص	خلوص، محبت
ادیب	علم جاننے والا	اصغر	چھوٹا
ارسلان	شیر	امین	امانت دار
اریب	عقل مند	اشتیاق	آرزو، تمنا
اسرار	بھید	اسامہ	بلند، اپنائیت کا سلوک کرنے والا
اسلم	پاکیزہ	اعجاز	معجزہ
اقبال	کامیابی، خوش نصیبی	امتیاز	فرق کرنا
ابساط	کشادہ، فراغ	بوالخیر	بھلائی کا باپ
ابوالحسن	حسن کا باپ	ابسام	صلح پسند۔ صلح جو
ابدال	اولیاءاللہ کا ایک درجہ	اتفاق	سلوک۔ اتحاد
اتالیق	استاد۔ معلم	اثیر	اونچا۔ بلند و بالا
اثیل	منفرد	اجلال	شان و شوکت۔ بلند مرتبہ
اجواد	عقلمند۔ دانا	اجمال	مختصر۔ اختصار
احتضار	حاضر ہونا۔ تازہ ہونا	احرار	آزاد لوگ
احمر	سرخ۔ لال	احباب	دوست۔ رفیق
احبار	دانا۔ سمجھدار	احزم	عقل مند۔ مصمم ارادہ والا
احماد	محفوظ رکھنا	اخوان	بھائی
اختر	نصیب۔ ستارہ	اختیار	پسند کرنا۔ انتخاب کرنا۔

اخیار	نیک۔متقی	اذفر	بزرگ۔مقبول لوگ
ارتضیٰ	پسندیدہ ہونا	ارسلان	شیر۔بندہ
ارمغان	تحفہ۔سوغات	اردشیر	جلالی طبیعت والا
اِزہاد	زہد اختیار کرنا	ازاحت	کام کو پورا کرنا
ازہر	چمکیلا۔منور	اِزہار	شگوفے۔کلیاں
اسحار	سویرا۔فجر	اِسہار	جاگنا۔بیدار کرنا
اشراف	شرافت والا۔	اشہل	منور۔روشن
اِشناس	شناخت کرنے والا	اشراق	سورج کا طلوع ہونا
اظفر	فتح مند۔خوشبودار	اظفار	اظفر کی جمع
اعتدال	برابر۔میانہ روی	اعتصار	پناہ لینا
اعظم	عالی مرتبت، بزرگ	اعتصام	مظبوطی سے تھامنا
اعتزاز	خوبی، عزیز ہونا،	افہام	عقل، دانش، سمجھ، شعور
اقبال	کامیابی	اسلام	فرمانبرداری کرنا
اقتدار	حکومت، طاقت	اقرار	تسلیم کرنا، ماننا
اقدم	سب سے آگے	اکمل	کامل، مکمل
اکبر	بہت بڑ	اکرم	بہت کرم کرنے والا
التفات	قائل ہونا	الطاف	مہربانیاں، عنایات،
امان	پناہ، حفاظت	امانت	کسی کی سپرد کی ہوئی شے
امداد	مدد کی جمع، مدد کرنا	امجد	شریف، نیک، بزرگ
انتسام	خوشبودار ہونا	انتصار	مدد پانا۔فتح
انضار	ہر خالص شے	انتخاب	منتخب کرنا، پسند کرنا
انشاء	عبارت، تحریر	انکسار	عاجزی، عجز
انبساط	راحت، خوشی	انتظام	کام مکمل ہونا، بندوبست کرنا
انتساب	منسوب ہونا	انضمام	متصل ہونا، مل جانا
اویس	بزرگ، عطا کردہ	ایان	خدا کا تحفہ

ایاز	محمود غزنوی کے غلام کا نام	آموز	سیکھنا، سکھانا
ایبک	چاند، پیغام رساں	ایلیا	صدیق، اونچا، اعلی
آفاق	آسمان کے کنارے	آثار	طور طریقے۔ علامت
آرزو	خواہش	آریز	سربراہ۔ لیڈر
آردشیر	شیر کے غصے والا۔	آویز	چاہت، پیار
آزاد	بری۔ خودمختار۔	آژمیر	متقی۔ سمجھدار۔ ہوشیار
آس	توقع۔ امید	آسودہ	امیر۔ خوشحال۔ مطمئن
آشفتہ	شیدائی۔ فریفتہ	آصف	لائق۔ قابل۔
آغا	مالک، حاکم	آفتاب	سورج
آفندی	شریف النفس	آمر	حکم دینے والا

ب

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
برکت	زیادتی، فضل	برکت اللہ، برکت الٰہی
بشیر	خوشخبری دینے والا	بشیر احمد، بشیر الاسلام
بشارت	خوشخبری	محمد بشارت، بشارت الحق
بہاء	روشنی، زیبائی	بہاء الدین، بہاء الحق
بصیر	دانا، بینا	عبدالبصیر، بصیر اللہ
بدیع	انوکھا، نئی بات	عبدالدیع، بدیع اللہ
باسط	کھولنے والا	عبدالباسط، عبید الباسط
بلیغ	پورا، کامل	بلیغ الدین، بلیغ الاسلام
برہان	دلیل، حجت	برہان الحق، محمد برہان
براہین	دلائل، نشانیاں	براہین احمد، براہین اختر
بلال	فتح مند ہونا	محمد بلال، بلال احمد

نام	مَعْنی	نام	مَعْنی
بصیرت	بینائی	بدر	چودہویں کا چاند
بخت یار	خوش قسمت	باقر	پڑھا لکھا، عالم
برجیس	ستارہ، مشتری	بارق	چمکدار، روشن
بسیط	کشادہ	بسالت	جرأت
باسعود	بابرکت	بہلول	ہنس مکھ
بایزید	مشہور بزرگ	باقر	شیر، بہت بڑا عالم
بابر	شیر	باصر	بینائی والا، دیکھنے والا
بختیار	خوش نصیب	بختاور	صاحب، نصیب
بدران	چودہویں کا چاند	براہین	دلائل، نشانیاں
برکت	فضل، اضافہ	بسام	بہت تبسم والا
بسیط	کشادہ، کھلا، فراخ	بشارت	خوشخبری، الہام
بشیر	خوشخبری دینے والا	بہاالدین	دین کی روشنی
بہرہ ور	خوش قسمت	بیدار	ہوشیار، جگتا ہوا

ت

نام	مَعْنی	نام رکھنے کا طریقہ
تکریم	بزرگی	تکریم اللہ، تکریم الدین
تعظیم	عزت	تعظیم الدین، تعظیم الاسلام
تصدیق	اثبات	تصدیق اللہ، تصدیق الاسلام
تقی	پرہیزگار	محمد تقی، تقی الحسن
تنزیل	اتارنا	تنزیل الرحمن، تنزیل الحق

توکل	بھروسہ کرنا	توکل الٰہی، توکل الرحمٰن
توثیق	مضبوط	توثیق احمد، توثیق الدین
تحسین	تعریف کرنا	تحسین الٰہی، تحسین الدین
تجمل	شان وشوکت	محمد تجمل، تجمل عثمان
تسہیل	آسانی، سہل کرنا	تسہیل الدین، تسہیل احمد
تصعید	بلند ہونا	تصعید عمر، تصعید حسین
تحلیم	بردبار	محمد تحلیم، تحلیم عثمان
تفضّل	فضیلت، بزرگی	تفضّل عثمان، تفضّل علی
تشمیر	مستعد ہونا	تشمیر الدین، تشمیر الحق
تمیز	شعور، پہچان	تمیز الدین، تمیز الحق
تبشیر	خوشخبری دینا	تبشیر الدین، تبشیر الخیر
تحکیم	حکم، طاقت	تحکیم الاسلام، تحکیم الحق
تصدق	برحق ہونا	تصدق عثمان، تصدق حسن

نام	معنی	نام	معنی
تفہیم	سمجھانا	تسنیم	جنت کی نہر
تقدس	پاکیزگی	تمیم	مضبوط، توانا
تنویر	روشن کرنا	تسلیم	ماننا
تحسین	تعریف	تہام	مضبوط، نڈر
تحمید	تعریف	تبسم	مسکراہٹ، تہذیب
تذکیر	نصیحت کرنا	تسکین	سکون، آرام
تسدید	مضبوطی، درستی	تمدین	خوشحال
توصیف	صفت بیان کرنا	توضیح	روشنی، چمک
توفیق	طاقت، حوصلہ	توقیر	تعظیم، عزت

تیسیر	آسان فہم، اطمینان	تہذیب	شائستگی، صفائی
تنظیم	بندوبست	تنشیط	خوش کرنا
تنضیر	پیار و محبت سے پالنا	تاثیر	نتیجہ، اثر
تکمیل	پورا کرنا	توحید	ایک ماننا
توکل	اعتماد	تمثیل	مشابہت، مثال
تاثیر	اثر	تامیر	حاکم بنانا، تیز کرنا،
تاجدار	بادشاہ	تاجور	تاج والا
تائب	توبہ کرنے والا	تجمل	شان وشوکت
تحسین	تعریف کرنا	تحمل	برداشت،
تحذیق	عقلمندی کا دعویٰ کرنا	تخلیص	رہا کرنا، چھوڑ دینا
تذکیر	نصیحت کرنا، یاد دلانا	تسنیم	جنت کی ایک نہر کا نام
تعظیم	تکریم، عزت	تفضّل	فضلیت، بزرگی، بڑائی
تقی	پاکیزہ، پرہیزگار	تنویر	روشنی، چمک، نور
تنظیر	مثل بنانا، مثال لانا	تنزیل	نازل کرنا، نزول کرنا
تنشیط	خوش ہونا	توثیق	پکا کرنا، سخت کرنا

ث

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
ثناء	تعریف	ثناءاللہ، ثناءالرحمٰن
ثروت	دولت	ثروت الاسلام، ثروت الظفر
ثابت	پورا، مضبوط	محمد ثابت، ثابت الدین
ثاقب	روشن	محمد ثاقب، ثاقب الدین

ثیاب	لباس	ثیاب الدین، ثیاب الاسلام
ثقابت	شوخ، روشن	محمد ثقابت احمد، ثقابت دین
ثبات	مضبوطی، پائداری	ثبات الدین، ثبات احمد
ثمیر	پھل دار	ثمیر الدین، ثمیر الاسلام

نام	مَعْنی	نام	مَعْنی
ثمر	پھل، نتیجہ	ثمن	قیمت، قدر
ثمین	قیمتی، بیش بہا	ثوبان	واپس آنا
ثقیف	عقلمند	ثقلین	دونوں جہاں
ثمال	کارگذار، انسان	ثمار	پھل کی جمع
ثوابت	ساکت ستارے	ثروت	دولت
ثاقب	مضبوط	ثانی	دوسرا، ہمسر
ثناء	تعریف		

ج

نام	مَعْنی	نام رکھنے کا طریقہ
جلال	رعب، بزرگی	جلال الدین، جلال احمد
جمال	حسن	جمال الدین، جمال احمد
جاسر	بہادر	جاسر حسین، جاسر معاویہ
جلید	قوت والا، ماہر	جلید الحسن، جلید الصدیق
جرار	بہادر	عمر جرار، معاویہ جرار
جمیل	حسین	جمیل احمد، جمیل عثمان
جنید	نیک، عبادت گزار	جنید احمد، جنید حسن

جواد	تقسیم کرنے والا	جوادالحق، محمد جواد
جلالت	بزرگی، بڑائی	جلالت عمر، جلالت حسین
جرأت	دلیری، بہادری	جرأت الحق، جرأت الاسلام
جعفر	نالہ (آنحضرت کے چچا کا نام)	محمد جعفر، جعفر عثمان

نام	معنی	نام	معنی
جالب	اپنی طرف کھینچ لینے والا	جامد	ٹھوس، جما ہوا
جائش	اعلیٰ، عمدہ، نفیس	جبران	معاوضہ، تلافی
جلیس	دوست، رفیق	جمشید	فارس کے بادشاہ کا نام
جنید	نیک	جوہر	خلاصہ، خوبی
جہانزیب	دنیا کی سجاوٹ کرنے والا	جہاندار	دنیا سنبھالنے والا
جیش	لشکر، سپاہ	جسیم	فربہ جسم والا
جلیل	بزرگ	جابر	غالب
جاذب	پُرکشش	جیاد	خالص
جاسم	مظبوط	جذیر	لائق
جبیر	زبردست	جالس	بیٹھنے والا

ح

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
حامد	تعریف کرنے والا	حامد علی، حامد حسین
حسن	خوبصورت، نیک	عمر حسن، عثمان حق
حریص	لالچی	حریص الاسلام، حریص الحق
حسیب	بزرگ، حساب لینے والا	حسیب الرحمٰن، حسیب اللہ

حشمت	دبدبہ	حشمت الحق، حشمت الاسلام
حلیم	بردبار	العثمان، حلیم الحسن
حیدر	شیر	عمر حیدر، علی حیدر
حمید	تعریف	حمید اللہ، حمید الدین
حصین	مضبوط، محفوظ	حصین احمد، حصین معاویہ
حفیظ	محافظ	عبدالحفیظ، حفیظ الحق
حماد	بہت تعریف کرنے والا	حماد اللہ، حماد الدین
حازم	ذہین، معاملہ فہم	حازم حسن، حازم معاویہ
حبیب	دوست، رفیق	حبیب اللہ، حبیب الرحمٰن
حلیف	مددگار، ساتھی	حلیف الدین، حلیف الاسلام
حمیس	جرات، دلیر	حمیس احمد، حمیس الدین
حسنین	اچھے لوگ	حسنین عمر، حسنین معاویہ
حب	محبت	حب رسول، حب صحابہ

نام	معنی	نام	معنی
حنیف	حق کی طرف مائل	حامز	خوش طبع
حمیم	دوست	حلم	نرمی، دانش
حرمت	عزت	حمایت	طرفداری
حسیم	ذی عزت	حیرم	بلند مرتبہ
حسان	بہت اچھا	حشیم	شان وشوکت
حصور	کلمہ تعظیم	حقانی	حق، سچ
حسام	تلوار	حکیم	دانا
حزیم	دانا	حارث	کاشتکار
حشیم	دبدبہ والا	حاذق	دانا، تجربہ کار
حطام	ببر شیر	حیات	زندہ، عمر

حمزہ	شیر	حباب	رفاقت، دوستی
حمود	تعریف کیا ہوا	حصن	جائے پناہ، قلعہ
حویذ	ہوشیار	حازم	سمجھدار
حذیفہ	راز کو جاننے والا	حجاج	بہت حج کرنے والا
حاتم	سخی، بہادر، دلیر	حاکم	سردار
حافظ	حفاظت کرنے والا	حزب اللہ	اللہ والوں کی جماعت
حسان	بہت بہتر، بہت اچھا	حسیب	بزرگ، حساب لینے والا
حسین	اچھی شکل والا، خوبصورت	حسنات	نیکیاں، اچھائیاں
حسرت	تمنا، آرزو	حشام	شان وشوکت والا
حماس	سختی، مضبوطی، لڑائی	حمیذ	فہم وفراست والا، عقلمند
حنان	رحمت نازل کرنے والا		
حُسین	حضور کریم ﷺ کے نواسے اور حضرت علیؓ کے صاحبزادے کا اسم مبارک		

خ

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
خلیل	سچا دوست	خلیل الرحمٰن، خلیل احمد
خلیق	مروت والا	خلیق الزماں، خلیق الرحمٰن
خطیب	وعظ ونصیحت کرنے والا	خطیب الاسلام، خطیب الحق
خیر	نیکی، بھلائی	خیر الدین، خیر الاسلام
خادم	خدمت گار	خادم الاسلام، خادم الصحابہ
خطاب	وعظ ونصیحت کرنے والا	محمد خطاب، عمر خطاب
خیار	نیک لوگ	خیار احمد، خیار عثمان
خضیر	ہرا بھرا، تروتازہ	خضیر حسین، خضیر سفیان
خازن	محافظ، نگہبان	خازن عمر، خازن عثمان

خاصع	انکساروالا	خاصع عثمان، خاصع حسن
خاشف	تیزتلوار	خاشف عمر، خاشف معاویہ
خدیر	نیکی، خوبصورتی	محمد خدیر، خدیرالحسن

نام	معنی	نام	معنی
خرم	مسرور، تازہ	خشام	اونچی ناک والا
خطیر	بہت بڑا	خلیفہ	جانشین
خیرات	اچھے کام	خاتم	آخری نبی، آنحضرت کالقب
خاور	مشرق، سورج	خجیر	خوبصورت
خورشید	آفتاب، روشنی	خالد	ہمیشہ رہنے والا
خالق	پیدا کرنے والا	خلیق	اچھے اخلاق والا
خلیل	رفیق سچادوست	خوشحال	دولت مند، آسودہ
خوشنود	خوشی، رضامند		

د

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
دین	مذہب	دین محمد، دین الاسلام
دیانت	انصاف، راستی	محمد دیانت، دیانت عثمان
دواس	بہادر آدمی	محمد دواس، دواس عمر
دوام	ہمیشگی	دوام الدین، دوام الحق
دلاور	بہادر	دلاورصدیق، دلاورحسن
دبیر	انصاف کرنے والا	دبیر عثمان، دبیر حسن

نام	معنی	نام	معنی
دولت	مال، نصیبہ	دانش	شعور، دانائی
دلیل	ثبوت	دلاور	بہادر
دلشاد	خوش وخرم	دلالت	رہنمائی، نشان
دری	روشن چراغ	دلاص	نرم، ملائم
دلدار	تسلی دینے والا	دیمری	ذہین آدمی، نیک آدمی
دلستان	پسندیدہ	دیوان	عدالت، وزیر
درویش	فقیر، ولی اللہ	دائس	مہربان
دانیال	عادل، منصب	دائل	اچھی خوبیوں والا
داعی	دعوت دینے والا	دانا	عقلمند، سمجھدار
دانشمند	ہوشیار، سمجھدار، عقلمند	دانشور	سمجھدار، عقلمند، باشعور
دلنواز	دل خوش کرنے والا	دیدار	نظارہ، روشن
دیدہ ور	عقلمند، صاحب نظر		

ذ

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
ذکاء	ذہانت	ذکاءاللہ، ذکاءالدین
ذابر	علم رکھنے والا	ذابرالحسن، ذابرالعمرو
ذکی	ذہین	ذکی الدین، ذکی الاسلام
ذِکر	یادالٰہی	ذکراللہ، ذکرالباری
ذمیر	خوبصورت	ذمیراحمد، ذمیرحسین
ذیشان	شان وشوکت والا	ذیشان احمد، ذیشان معاویہ
ذوالفقار	تلوار	ذوالفقارعمر، ذوالفقارحیدر

نام	معنی	نام	معنی
ذاکر	ذکر کرنے والا	ذریف	نکلتا ہوا آنسو
ذکاوت	ذہانت	ذافر	خوشبودار چیز
ذہین	ہوشیار، تیز فہم	ذیام	مرتبہ، عزت
ذوالنورین	حضرت عثمانؓ کا لقب	ذکوان	سمجھدار لوگ
ذہیب	سنہرا، سونے کا	ذیمری	ہوشیار، عقلمند
ذلیق	خوش بیان	ذوار	غیرت مند
ذریر	ایک طرح کی خوشبو	ذکریا	بہت ذکر کرنے والا
ذوالقرنین	دو گیسو والا	ذکیر	بہت ذکر کرنے والا
ذوقان	پسندیدہ طبیعت والے		

ر

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
رشید	ہدایت یافتہ	رشید احمد، رشید الحق
رضوان	رضامندی	رضوان اللہ، رضوان احمد
رفیع	بلند مرتبہ	رفیع اللہ، رفیع الدین
رحمت	مہربانی	رحمت اللہ، رحمت الحق
ریاض	باغ	ریاض الدین، ریاض احمد
رحیم	مہربانی کرنے والا	رحیم الدین، رحیم اللہ
راسب	بردبار، رحم دل	راسب علی، راسب حسن
رافع	بلند کرنے والا	رافع اللہ، رافع الحق
رصیب	ساتھی، ہمسفر	رصیب الدین، رصیب احمد

رضی	راضی ہونا، پسندیدہ	رضی احمد رضی الدین
رغیب	رغبت کرنے والا	رغیب احمد، رغیب حسین
روحان	مسرتیں، خوشبوئیں	روحان احمد، روحان الدین
رفاقت	ہمراہی، خیرخواہ	رفاقت عثمان، رفاقت علی

نام	مَعْنی	نام	مَعْنی
رفیق	ہمراہی	رقیب	نگہبان
رفعت	برتری	رئیس	سردار
ریحان	ایک خوشبودار پودا	ربانی	بزرگی
رحیل	کوچ کرنے والا	رحیق	اچھے قد وقامت والا آدمی
روباص	کھرا، خالص	ریان	سرسبز، تروتازہ
ریبال	بہادر، دلیر	رمیز	عقلمند، مکرم
رہید	نرم نازک	راقب	مہربانی، شفقت
راشد	ہدایت پانے والا	رشیق	حسین وجمیل
رابط	ہیشگی اختیار کرنا	راوی	روایت کرنے والا
راہی	مسافر، راہ گیر	رافد	مددگار، معاون
رافق	بردباری، مہربانی	راجا	بادشاہ، سخی
رافت	مہربانی، شفقت	راحت	آرام، اطمینان
راغب	رغبت رکھنے والا	راشد	سیدھی راہ پانیوالا
راقم	لکھاری، لکھنے والا	رعیل	ہمیشہ آنے والا
رمضان	ماہ صیام	رومان	محبت، چاہت
روی	گھونٹ جو سیراب کردے	روید	عاجزی سے چلنا
رہبان	پرہیزگار	رہبر	رہنما، پیشوا
ریعان	کسی شے کا بہتر حصہ	ریحان	ایک خوشبودار پودا

ز

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
زعیم	کفیل، ضامن	زعیم الحق، زعیم الدین
زاہد	متقی، پرہیزگار	زاہد عثمان، زاہد حسن
زیاد	زیادہ ہونا	زیاد الحق، زیاد الدین
زین	آرائستگی	زین الصدیق، زین العابدین
زافر	لشکر	زافر احمد، زافر معاویہ
زبرین	غالب، بلند مرتبہ	زبرین عمر، زبرین عثمان
زرار	تیز فہم	زرار حسن، زرار معاویہ
زہید	قناعت کرنے والا	زہید عثمان، زہید حسن
زمیت	بردبار، باوقار	زمیت حسین، زمیت احسن
زمان	زمان، دور	امیر زمان، زمان خان

نام	معنی	نام	معنی
زکی	پاک	زوار	زیارت کرنے والا
زیان	وجاہت، خوبصورتی	زیارت	دیدار
زاہل	سکون والا دل	زاہر	چمکیلا، روشن
زبیر	مضبوط آدمی	زہیر	چمکدار
زید	اضافہ	زبرقان	چودھویں رات کا چاند
زین	خوبصورتی	زوار	خوشبو مائل ہونا
زہیب	روشن	زہاد	عبادت گذار
زبید	منتخب کیا ہوا، چنا ہوا	زکریا	جسے اللہ تعالیٰ یاد رکھے

زوان	جلدی کرنا، یکدم	زہیر	چمکدار، روشن
زہاب	مسلسل جاری چشمہ	زیب	آرائش وزیبائش،
زیدان	اضافہ، زیادتی		

س

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
سجاد	بہت سجدے کرنے والا	محمد سجاد، سجاد عثمان
سعادت	نیک بختی	سعادت الحق، سعادت الحسن
ساجد	سجدہ کرنے والا	محمد ساجد، ساجد علی
سالک	پابند شرع	سالک عمر، سالک حسین
سعود	مبارکباد، نیک ہونا	سعودالحسن، سعود معاویہ
سعید	نیک بخت	سعیدالرحمٰن، سعید احمد
سہیل	ایک چمکدار ستارہ	محمد سہیل، سہیل احمد
سلام	سلامتی	عبدالسلام، سلام اللہ
سعد	نیک، مبارک	سعداللہ، محمد سعد
سیف	تلوار	سیف اللہ، سیف الرحمٰن
سمیع	سننے والا	عبدالسمیع، سمیع الحق

نام	معنی	نام	معنی
سراج	چراغ	سلامت	تندرست
سلیم	بردبار، نیک	سلاست	سادگی
سہل	آسان	سلیل	ننگی تلوار
سادات	حضرت فاطمہؓ ورقیہ کی اولاد	ساقی	پلانے والا

سطوط	دبدبہ	سرمد	دائم
سخاوت	سخاوت کرنے والا	سمیر	قصہ سنانے والا
سالم	مکمل، محفوظ	سالار	سردار، رہنما
سادس	ششم، چھٹا	ساعی	جدوجہد کرنے والا
سبحان	پاکی، تعریف، حمد	سبکتگین	ہوشیار، چالاک
سدلیس	عقلمند	سدید	پائیدار، درست
سرباز	دلیر، جری، شجاع	سرشار	لبریز، چھلکتا ہوا
سرامد	برگزیدہ، برتر	سرفراز	بلند و بالا، اونچا
سرتاج	حاکم، سردار	سرلیس	دانشمند، سمجھدار،
سرور	خوشی، مسرت	سعدی	خوش قسمت
سعدان	مبارک لوگ	سفیر	قاصد، ایلچی
سفیان	مشہور ولی اللہ	سفی	بادل
سفین	کشتی ناؤ	سفان	کشتی والا، ملاح
سفاح	سخاوت کرنے والا	سکران	ہر حال میں خوش
سکندر	بلند و بالا، اونچا	سلطان	حکمران
سلیمان	صلح پسند	سلمان	ٹکڑا، ذرہ
سیفی	تلوار رکھنے والا		

ش

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
شکور	شکر پسند، قدردان	عبدالشکور، عبیدالشکور
شفیع	بخشوانے والا	محمد شفیع، شفیع الدین
شمیم	خوشبو	محمد شمیم الدین، شمیم الاسلام
شفیق	مہربان	شفیق الرحمٰن، شفیق الدین
شجاع	بہادر	شجاع الرحمٰن، شجاع الدین

نام	معنی	نام	معنی
شفاعت	سفارش	شہزادہ	بادشاہ کا بیٹا
شائم	خوشبوئیں	شکیب	بردباری
شاطر	بے باک، چالاک	شاہین	شہباز
شاداب	سیراب، سرسبز	شارف	صاحب شرف ہونے والا
شارح	تشریح کرنے والا	شاد	مسرور، راضی، خوش
شباب	حسن، جوانی	شبان	چرواہا
شجان	غیرت مند آدمی	شعیل	چمکدار چیز
شعبان	اسلامی مہینہ	شفاعت	بخشوانا، سفارش
شفیف	بہت محبت کرنے والا	شفان	ٹھنڈی ہوا
شامہ	خوشبو ہیں، مہک	شمیط	ملی جلی صبح
شناور	تیرنے والا	شنان	سرد پانی، ابر، بادل
شورش	ہنگامہ	شہباز	شاہین
شہریار	عوام کا غم کوار	شہادت	گواہی
شہامت	بہادری، دلیری	شہید	گواہ، حاضر
شہزاد	شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا	شیفتہ	دیوانہ، شیدائی، شیدا
شیجان	رشک کرنے والا	شیر افگن	شیر کو مارنے والا،
شیر خدا	اللہ کے شیر	شیر دل	بہادر، جری
شیراز	انتظام، بندوبست		

ص

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
صدیق	نہایت سچا	محمد صدیق، ابوبکر صدیق
صفی	پاک، مخلص دوست	صفی اللہ، صفی الدین
صابر	صبر کرنے والا	صابر عثمان، صابر حسین

صادق	سچا	محمد صادق، صادق الامین
صالح	نیک	محمد صالح، صالح معاویہ
صلاح	صلح کرنا	صلاح الدین، صلاح الحسن
صبیح	حسین وجمیل	محمد صبیح، صبیح الدین
صحیب	رفیق، دوست	صحیب الدین، صحیب اختر
صمیم	مخلص، بےلوث	صمیم الدین، محمد صمیم
صیانت	حفاظت، پاسبانی	صیانت احمد، صیانت عمر
صعود	بلندی پر چڑھنا	صعودالاسلام، صعودالحسن

نام	معنی	نام	معنی
صداقت	سچائی	صدیق	پیارا دوست
صغیر	چھوٹا، کم عمر	صفوان	چمکدار، پتھر
صمصام	تیز تلوار	صمید	قناعت پسند، بے نیاز
صائم	روزہ رکھنے والا	صہیب	بہادر آدمی، تجربہ کار آدمی
صرامت	ہوشیاری، بزرگی	صفدر	فوج کی صف کو پھاڑنے والا
صاعد	اوپر چڑھنے والا	صولت	رعب، دبدبہ
صامت	خاموش، سونا، چاندی	صاوف	گفتگو کرنا
صائب	ٹھیک، درست، صحیح	صاحب	ساتھی، دوست
صارم	بہادر آدمی	صاور	نشانے پر لگنے والا تیر
صبغۃ اللہ	خدائی قانون	صباحت	وجاہت، خوبصورتی
صباح	فجر، صبح	صبار	بہت صبر کرنے والا
صحیب	رفیق، دوست	صراحت	وضاحت
صعود	بلندی پر چڑھنا	صنان	بہادر، دلیر
صہیب	سرخ، سرخی مائل		

ض

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
ضیاء	روشنی	ضیاء الحق، ضیاء اللہ، ضیاء الدین
ضامن	طرف دار	ضامن الحق، ضامن الاسلام
ضمیر	بھید، دل	ضمیر الدین، ضمیر الحق
ضرغام	شیر، قوی	ضرغام عمر، ضرغام علی
ضابط	فتح پانے والا	ضابط عثمان، ضابط عمر
ضافر	مدد کرنے والا	ضافر الدین، صافر الحق
ضارع	عجز وانکساری کرنے والا	ضارع حسن، ضارع عثمان
ضمین	کفیل، ذمہ دار	ضمین الدین، ضمین الحق
ضبیب	تلوار کی دھار	ضبیب الدین، ضبیب الحق
ضیشم	شیر	ضیشم عثمان، ضیشم علی

نام	معنی	نام	معنی
ضیغم	شیر	ضار	اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام
ضحاک	بہت ہنسنے والا	ضارع	عاجزی کرنے والا
ضحیٰ	پہر دن چڑھے کا وقت	ضامر	خفیہ، نازک اندام
ضربان	چمک، لپک	ضبور	ببر شیر
ضفیر	سر کے گندھے ہوئے بال	ضخام	قوی ہیکل
ضمان	ذمہ داری	ضاحک	ہنسنے والا، ہنستا ہوا
ضمیم	متصل، منسلک	ضیفان	مہمان داری

ط

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
طیب	پاک، خوشبو	محمد طیب، طیب عثمان
طاہر	پاک، صاف	محمد طاہر، طاہر حسن
طالب	طلب کرنے والا	طالب الحق، طالب الدین
طہور	نہایت پاکیزہ	طہور اللہ، طہور الحق
طریر	خوب صورت مرد	طریر احمد، طریر عثمان
طلال	حسین و جمیل	طلال احمد، طلال حسین
طباب	انتہائی پاکیزہ	طباب الدین، طباب احمد
طربان	آشکار ہونا	طربان الدین، طربان الحق
طلحہ	تازگی، نعمت	طلحہ حسین، طلحہ عمر
طلیعہ	لشکر، دستہ	طلیعہ زبیر، طلیعہ خالد
طفیل	سبب، وسیلہ	طفیل الدین، طفیل احمد
طابن	دانش مند، زیرک	طابن عمر، طابن معاویہ

نام	معنی	نام	معنی
طارق	صبح کا تارا	طالع	نصیب
طفیل	وسیلہ	طبیب	حکیم
طابش	روشن، طلوع ہونا	طابع	فرمانبردار
طریف	انوکھا	طلیق	آزاد، ہنس مکھ
طلعت	نظارہ، شکل	طارف	عمدہ، مال
طارف	تازہ اور اچھا پھل	طائر	اڑنے والے

طابن	دانشمند، فہیم	طالب	مانگنے والا
طائف	طواف کرنے والا	طریان	ظاہر ہونا، تازگی
طلیحہ	کاغذ کا ایک ورق	طوبیٰ	خوشبودار، پاکیزہ
طہران	صاف، ستھرا	طیفور	غیظ وغضب والا

ظ

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
ظفر	کامیابی	ظفرالحق، محمد ظفر، ظفرالاسلام
ظہور	ظاہر ہونا	ظہورالحق، ظہورالدین، ظہورالٰہی
ظواہر	بلندیاں	ظواہرالحق، ظواہرالاسلام
ظفیر	کامیابی	ظفیر الحق، ظفیر الدین
ظریف	عقلمند، خوش طبع	محمد ظریف، ظریف الحسن، ظریف عثمان
ظہیر	مددگار	ظہیراللہ، ظہیرالحق،
ظل	سایہ	ظل اللہ، ضل الرحمٰن

نام	معنی	نام	معنی
ظاہر	کھلا ہوا	ظرف	خوش طبع
ظرافت	شرافت، نیک طبع	ظلال	بادل کا سایہ
ظافر	کامیاب	ظیان	شہد، چنبیلی
ظامر	آشکار ہونا	ظعین	سفر کرنیوالا، سیر کرنیوالا
ظلال	باغ، بادل کا سایہ	ظواہر	بلندیاں
ظفار	ایک خوشبو	ظہر	بہت سا مال، فخر

ع

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
عباد	بندے	عباد اللہ، عباد الرحمٰن
عبید	چھوٹا غلام، بندہ	عبید اللہ، عبید الرحمٰن
عابد	عبادت کرنے والا	محمد عابد، عثمان عابد
عمر	زندگی	محمد عمر، عمر عثمان
عنایت	مہربانی	عنایت اللہ، عنایت الرحمٰن
عاشق	محبّ، فریفتہ	عاشق حسین، عاشق معاویہ
عباس	شیر	محمد عباس، معاویہ عباس
عدیل	عادل، منصف	محمد عدیل، عدیل الحسن
عتیق	برگزیدہ، بزرگ	عتیق الرحمٰن، عتیق الاسلام

نام	معنی	نام	معنی
عادل	انصاف کرنے والا	عاصم	نگہبان
عاشر	مل جل کر رہنے والا	عثمان	خوبصورت قلم
عاطف	عنایت کرنے والا	عمیر	خوشبو، مہک
عارف	پہچاننے والا	عرفان	پہچاننا
عقیل	سمجھدار	عمار	بنانے والا
عامر	آباد کرنے والا، لبریز	عاصف	تیز ہوا
عشرت	مسرت، خوشی	عمیر	بھرا ہوا، معمور
عمیم	کامل، مکمل	عیاذ	گناہ سے بچنا
عاقل	دانشمند، عقلمند	عاتف	آزاد

عازم	قصد کرنے والا	عارفین	اللہ تعالیٰ کے دوست
عابر	فکر کرنے والا	عالف	مسجد میں گوشہ نشینی کرنے والا
عاطس	سامنے آنے والا	عالَم	دنیا، جہان
عالِم	بہت پڑھا لکھا	عاقد	معاہدہ کرنے والا
عالمگیر	دنیا پر چھایا ہو	عاطر	سخاوت کرنیوالا
عامل	عمل کرنے والا	عاقب	ولی عہد، جانشین
عاکف	گوشہ نشین	عاتک	نیک، شریف
عالی	اونچا، بلند	عاجز	مجبور
عبادت	فرمانبرداری	عتیق	بزرگ، برگزیدہ
عدید	ہم مثل	عدین	بہشت میں رہنے والا
عدنان	بہشت میں رہنے والا	عدول	سچا، پرہیزگار
عروج	بلندی، ترقی	عریف	سردار، رئیس
عزیر	ایک مشہور پیغمبر	عشرت	خوشی، مسرت
عصمت	پاکدامنی	عصام	باز رکھنے والا
عطار	عطر فروخت کرنے والا	عطاء	بخشش انعام
عطافت	مہربانی عنایت	عظمت	بزرگی، شان، شوکت
عفیف	پاکباز، پارسا	عفت	پاکدامنی، پارسائی
عفاف	پرہیزگار	عفان	درگزر کرنے والا
عقیان	خالص سونا	عقیب	پیروی کرنے والا
علاوالدین	دین کا نام بلند کرنے والا	علوان	بلندی، اونچائی
علیم	عالم، جاننے والا، دانا	عمران	آبادی
عماز	مہربانی	عمید	رئیس، رہنما
عمیدر	نازک بدن	عماد	ستون، اعتبار
عنصر	جڑ	عنفوان	تازگی، کسی چیز کا آغاز
عمران	زندگی والے	عمان	حفاظت، گہرا سمندر

عنایت	کرم، توجہ	عنان	ابر، بادل، اونچائی
عودان	نبی کا منبر اور عصا	عواقب	آخر، انجام
عویص	قوت، سخی	عوید	عنایت کرنے والا
عوین	مددگار	عوان	زبردست لڑائی
عواد	مہربانی، کرم	عوارف	احسان کرنے والے
عیاث	شیر	عیاذ	گناہ سے بچنا
عیاز	بچاؤ، پناہ	عیزار	مضبوط وسخت چیز

غ

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
غازی	فتح	غازی الدین، غازی الحق
غالب	غلبہ پانے والا	غالب الاسلام، غالب الحق
غوث	مددگار	غوث اللہ، غوث الٰہی
غیاث	فریاد رس	غیاث الٰہی، غیاث الرحمٰن
غفار	بخشش کرنے والا	عبدالغفار، عبادالغفار
غاصف	خوش وخرم، آسودہ حال	غاصف احمد، غاصف حسن
غریر	اچھے اخلاق والا	غریر حسن، غریر معاویہ
غنی	دولت مند، بے پروہ	عثمان غنی، جعفر غنی
غلام	بندہ، خدمت گار	غلام اللہ، غلام محمد

نام	معنی	نام	معنی
غفران	بخش دینا	غفیر	سرسبز وشاداب
غضنفر	شیر ببر	غیور	غیرت دار

غفیر	چھپانے والا	غوری	مزاج پرسی کرنے والا
غرام	محبت' چاہت	غیدان	شباب' نوجوانی
غشمیر	سخاوت کرنے والا	غزالی	ہرن جیسا
غزنوق	حسین وجمیل	غزار	رشتہ داروں کیساتھ احسان کرنیوالا
غاضف	نرم دل	غیال	شیر
غازی	فتح مند، جیتا ہوا	غاور	فکر کرنے والا
غایت	مقصد، انجام	غائر	وسیع، گہرا
غالی	گراں قیمت	غاذی	اصلاح کرنے والا
غابط	رشک کرنے والا	غدیر	جھیل، تالاب
غریب	عاجز، مسافر،	غریق	ڈوبا ہوا
غزنوی	غزنی کا رہنے والا	غزی	مجاہدین
غمامہ	بادل، ابر		

ف

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
فضل	برتری	فضل الرحمٰن' فضل اللہ
فرقان	حق وباطل میں فرق کرنیوالا	محمد فرقان' فرقان الٰہی
فیاض	سخی	فیاض الرحمٰن' فیاض احمد
فیض	بخشش' کرم	فیض الباری' فیض الغنی
فاروق	حق وباطل میں فرق کرنیوالا	محمد فاروق' عمر فاروق
فیصل	حاکم	محمد فیصل' شاہ فیصل
فاتح	فتح کرنے والا	محمد فاتح' فاتح عمر
فتح	کامیابی	فتح محمد' فتح معاویہ

فرید	بے مثال، یکتا	فرید احمد، فرید الدین	
فضیل	صاحب فضیلت	فضیل احمد، فضیل عثمان	
فواز	کامیابی حاصل کرنیوالا	فواز احمد، فواز خالد	
فیضان	بڑا فائدہ	فیضان احمد، فیضان الاسلام	

نام	مَعنی	نام	مَعنی
فتح	کامیابی	فرحاد	دانش مند
فاضل	بزرگ، عالم	فرح	خوشی
فدوی	جانثار	فسیح	فراخ، کشادہ
فخر	ناز	فقیہ	عالم، دانا
فصیح	خوش بیان	فلاح	نیکی، بہتری
فنافی اللہ	اللہ کی راہ میں مٹنا	فواد	دل، قلب
فتین	ہوشیار	فہد	تیندوا
فخیل	شریف	فردوس	جنت، بہشت
فوز	کامیابی، آزادی	فروز	بہادر، دلیر
فہام	بہت عقلمند	فیاش	سردار، بڑی فضیلت والا
فرحان	مسرور، خوش	فہمید	ہوشیار
فرساد	عقلمند، حکمت والا	فاضل	عالم، بزرگ
فاطق	سمجھدار، ذہین	فراز	وسیع، بلند
فرہاد	سچا عاشق	فرخ	خوبصورت، مبارک
فضال	بہت عنایت کرنے والا	فطین	عقلمند
فہیم	سمجھ دار	فیضی	فیض پانے والا
فوار	انتہائی جوشیلا	فاکر	فکر کرنے والا
فاطن	دانشمند، عقلمند	فارح	خوشی دینے والا

فاروقی	حضرت عمرؓ سے منسوب	فارط	جو پہلے انتظام کرے
فارس	صاحب فراست	فارد	اکیلا، علیحدہ،
فائز	منصب دار	فتیل	چراغ کی بتی
فخان	کلام	فدا	قربان، نچھاور
فرمان	شاہی پروانہ	فردوسی	بہشتی، جنتی
فرحت	شادمانی، خوشی	فرحال	خوش، مسرور
فراست	تیز فہمی، عقلمندی	فرخاد	قابو پانے والا
فرخان	خوش ہونے والا	فراہت	دانائی، عقلمندی،
فراد	موتی بیچنے ولا	فرزان	حکمت، عقل، دانش،
فصاحت	خوش کلامی	فضیل	صاحب فضیلت
فضل	برتری، بزرگی	فطانت	عقلمندی، دانشمندی
فقید	نایاب، نادر	فتان اللہ	خدا کی راہ میں مٹنا
فوق	بلند، بالا	فواد	دل، قلب
فہاد	جیتنے والا	فیوض	نیکیاں، برکات

ق

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
قاسم	بانٹنے والا	محمد قاسم، قاسم الدین
قدوس	بڑا پاک	عبدالقدوس، محمد قدوس
قربان	خیرات، صدقہ	قربان الحق، قربان الٰہی
قیوم	ہمیشہ زندہ رہنے والا	عبدالقیوم، قیوم الٰہی
قوی	زور آور	عبدالقوی، قوی الاسلام
قادر	قدرت والا	عبدالقادر، غلام قادر

قیس	دیوانہ، عاشق	بلال قیس، ثوبان قیس
قرنی	زمانہ شناس	اویس قرنی، سہیل قرنی
قاصد	ارادہ کرنے والا	قاصد الاسلام، قاصد الحق
قدرت	قوت، طاقت	قدرت اللہ، قدرت الٰہی

نام	مَعنی	نام	مَعنی
قانت	فرمانبردار	قائم	مضبوط
قطب	بزرگ، ولی، سردار	قسیم	حسین، حصہ دار
قمر	چاند	قیصر	شہنشاہ
قانع	قناعت کرنے والا	قابل	پسندیدہ، لائق
قویم	مضبوط	قارف	قریب آنا
قدیس	موتی گوہر	قاضی	جج، منصف
قزانی	گھنے جنگل کا باسی	قطیف	چنا ہوا پھول
قائد	لیڈر، رہنما	قاری	قرأت کرنے والا
قاصد	ایلچی، ارادہ کرنیوالا	قدوسی	نیک بندے، فرشتے
قریشی	قبیلہ قریش سے	قریب	پاس، نزدیک
قرطاس	کاغذ، صفحہ	قرین	ہم نشین، رفیق

ک گ

نام	مَعنی	نام رکھنے کا طریقہ
کریم	سخی، داتا	کریم اللہ، عبدالکریم
کفایت	کافی ہونا	کفایت اللہ، کفایت الحق
کبیر	بڑا	عبدالکبیر، کبیر الٰہی

کلیم	بات کرنے والا	کلیم اللہ، کلیم الدین
کاظم	غصہ ضبط کرنیوالا	کاظم عثمان، کاظم حسن
کفیل	ذمہ دار، ضامن	کفیل اللہ، کفیل الرحمٰن
کابر	سردار، بلند مرتبہ	کابر صدیق، کابر عمر
کرار	بار بار حملہ کرنیوالا	کرار علی، کرار معاویہ
کرمانی	مہربانی کرنیوالا	محمد کرمانی، صدیق کرمانی
کوثر	بہشت کی نہر	محمد کوثر، کوثر الاسلام

نام	معنی	نام	معنی
کامل	پورا، ماہر	کرامت	انوکھی چیز
کرار	برابر حملہ کرنے والا	کمال	خوبی
کاشف	کھولنے والا	کابر	عظیم، بڑا
کامران	کامیاب	کاشد	محنت سے روزی کمانیوالا
کیس	ہوشیار، زیرک	کمیل	مکمل، صفات سے بھرپور
کاشر	آپس میں ہنسنے والا	کاثر	کثرت پر غلبہ پانیوالا
کرم	مہربانی، ہمت	کارز	وعظ و نصیحت کرنیوالا
کشفی	فاش کرنا، کھولنا	کفیل	ضامن، ذمہ دار
کفالت	پرورش	کلام	قول، بات
کمال	انوکھی بات	کوکب	روشن ستارہ
کیفی	مخمور، سرشار	گلریز	پھول چھڑنے والا
گلفام	پھول جیسے چہرے والا	گلفشاں	پھول بکھیرنے والا
گلزار	گلستان، چمن	گلباز	پھولوں سے کھیلنے والا

ل

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
لطف	لذت،عمدگی	لطف اللہ،لطف الاسلام
لیاقت	قابلیت	لیاقت صدیق،لیاقت عمر،لیاقت علی
		لیاقت عثمان،لیاقت معاویہ
لقمان	دانا	محمد لقمان،لقمان حسن
لطیف	باریک بین	عبداللطیف،عبیدالطیف
لطافت	قابلیت،عمدگی	لطافت عمرو،لطافت مغیرہ
لوط	دل کو بھانے والا	محمد لوط،لوط احمد

نام	معنی	نام	معنی
لائق	قابل	لبیب	زیرک،دانا
لیث	شیر،خوش بیان	لئیق	لائق،قابل
لقانت	دانش مند ہونا	لصیف	تابندگی،روشنی
لبیق	عقلمند،دانا	لازق	چمکنے والا
لادن	عنبر،ایک خوشبو	لفیف	لپٹا ہوا،درست
لاحف	مدد کرنا،ساتھ رہنا	لبین	پرورش کیا ہوا
لطاف	بہت فری کرنے والا	لفاظ	خوش بیاں
لقاعت	حاضر جواب	لقاف	مہارت،ہوشیاری
لہری	زندہ دل،منچلا		

م

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
مجاہد	اللہ کی راہ میں لڑنے والا	مجاہد الحق، مجاہد معاویہ
مجیب	قبول کرنے والا	مجیب الرحمٰن، مجیب الحق
مسعود	سعادت مند	مسعود الرحمٰن، مسعد احمد
مشیت	مرضی	مشیت اللہ، مشیت الحق
محفوظ	جس چیز کی حفاظت کی جائے	محفوظ الحسن، محفوظ اسامہ
معین	مدد کرنے والا	معین الدین، معین الحق
مبارز	فوجی، سپاہی	مبارز صدیق، مبارز عمر
مصباح	چراغ	مصباح اللہ، مصباح الدین
مطلوب	مانگا ہوا، محبوب	مطلوب الرحمٰن، مطلوب احمد
معصوم	پاک دامن	محمد معصوم، معصوم احمد
مغیث	فریادرس	مغیث اللہ، مغیث الٰہی
ماجد	برگزیدہ	عبدالماجد، محمد ماجد
مجتبیٰ	منتخب کیا ہوا	محمد مجتبیٰ، غلام مجتبیٰ
محبّ	محبت کرنیوالا	محبّ رسول، محبّ صحابہ
محسن	احسان کرنیوالا	محمد محسن، محسن صدیق
مدثر	کمبل پوش (آنحضرتؐ کا لقب)	محمد مدثر، مدثر احمد
مفضال	بہت احسان کرنیوالا	محمد مفضال، مفضال الحسن
منصور	مدد کیا ہوا	محمد منصور، منصور معاویہ
منیب	حق کی طرف پھیرنے والا	منیب الرحمٰن، منیب احمد

نام	معنی	نام	معنی
ممتاز	عالی رتبہ، برتر	منیر	روشن
مطیع	تابعدار	مبشر	خوشخبری دینے والا
معیذ	کامیاب	مبین	ظاہر، روشن
مرتضٰی	پسندیدہ	متقی	پرہیزگار
مرزوق	خوش قسمت	متین	مضبوط
مسلم	اسلام کا پیروکار	محبوب	دوست
مشکور	پسندیدہ	مستقیم	سیدھا
مشتاق	چاہنے والا، آرزومند	مامون	محفوظ
مصطفٰے	برگزیدہ، پاکیزہ	معظم	بڑا بزرگ
ماہیر	دلیر، بہادر	محمود	تعریف کیا گیا
مقبول	قبول کیا گیا، پیارا	مدبر	دانا، صاحب تدبیر
مکرم	عنایت، فضل	مفیض	فیض پہنچانے والا
ملیح	سانولہ، خوبصورت	مہتاب	چاند
منظور	تسلیم کیا ہوا	منیف	برتر
منعم	نعمت عطا کرنے والا	مرغوب	پسندیدہ
متوکل	بھروسہ کرنے والا	مثیب	اچھائی کا بدلہ دینے والا
محتشم	عزت والا، رئیس	محصن	متقی، عبادت گزار
مخدوم	قابل عزت مرصوص	مستحکم	مسلم اسلام کا پیروکار
مسرور	خوش	مشرف	شرف یافتہ، اونچا
مصیب	بھلائی چاہنے والا	مظفر	کامیاب
ماہر	مہارت رکھنے والا	مبلغ	تبلیغ کرنے والا
مبارک	خوشخبری، باعث برکت	مبصر	پرکھنے والا، جانچنے والا

مبتسم	ہنسنے والا	متانت	سنجیدگی
متیم	حکم ماننے والا	مجہتد	کوشش کرنے والا
محتشم	عزت والا	محسود	جس سے رشک کیا جائے
محذور	ڈرانے والا	محتسب	حساب کرنے والا
محشود	جس کا لوگ حکم مانیں	مختار	آزاد، مرضی کا مالک
مختوم	ہنرمند، مہر شدہ	مدون	جمع کیا ہوا، منتظم
مراتب	بلندیاں، درجات	مراد	تمنا، خواہش
مروت	دلیری، اخلاق	مرتقی	بلند ہونے والا
مراشد	سیدھی راہیں	مزین	سجانے والا
مزکی	پاک کرنے والا	مستعین	مدد کا طلب گار
مسیر	سیر کرنا	مسکین	نادار، غریب
مستنصر	مدد طلب کرنے والا ،	مستکفی	کفایت کا خواہاں
مستبشر	خوشخبری چاہنے ولا	مستغنی	مالدار، بے پرواہ
مسترشد	ہدایت کا طلب گار،	مستفید	فائدہ چاہنے والا
مشاہد	دید، معائنہ	مشیر	مشورہ دینے والا
مصیطر	نگرانی کرنے والا	مصلح	درست کرنے والا
مطرب	راضی کرنے والا	مطہر	پاک کرنے والا
مطائر	مل کر اڑانا	معتصم	پناہ لینے والا
مظہر	ظاہر ہونے کی جگہ	معافر	ہمراہ چلنے والا
معطی	دینے والا	معراج	سیڑھی
معاد	واپس جانے کی جگہ	معزز	شریف، باعزت
معمور	بھرا ہوا، آباد	معوان	مدد کرنے والا
معوذ	بچایا گیا	معاون	مددگار
معز	عزت دینے والا،	معظم	بزرگ، بڑا عظیم
معتبر	سچا، بھروسہ والا	معتمد	جس پر اعتماد کیا جائے

معتزّ	گوشہ نشین	معنبر	خوشبودار
مغنی	بے نیاز کرنے والا	مفتی	فتویٰ دینے والا
مفید	فائدہ مند	مفضل	فضل کیا ہوا
مفکر	غور و فکر کرنے والا	مقصود	مطلب، مراد
مقدس	پاک، معصوم، بے گناہ	مقتدر	قدرت رکھنے والا،
مکی	مکہ مکرمہ کا رہنے والا	ممنون	شکرگزار
ممدوح	جس کی تعریف کی گئی	منذر	ڈرانے والا
منصف	انصاف کرنے والا	منہاج	راستہ، شاہراہ
منتہی	انتہا کو پہنچنے والا	منور	روشن، چمکیلا
منصور	مدد کیا ہوا، فتح مند	موعود	وعدہ کیا گیا
مومن	ایمان لانے والا	میمون	خوش بخت
میمور	افسر	مطیب	اچھی خوشبو دینے والا

ن

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
نصر	مدد	نصراللہ، نصرالحق
ناظر	دیکھنے والا	ناظراللہ، ناظرالٰہی
نور	روشنی	نوراللہ، نورالدین
نثار	نچھاور کرنا	نثارالحق، نثاراحمد
نجیب	بھلا مانس	نجیب اللہ، نجیب الرحمٰن
نصرت	حمایت	نصرت الحق، نصرت الاسلام
نذر	پیمان، منت	نذرالحق، نذرالٰہی
نبیل	نیک، باشعور	نبیل احمد، نبیل عمرو

ناموس	عزت، نیک نامی	ناموس احمد، ناموس صحابہ
نبی	خبر دینے والا	محمد نبی، غلام نبی
نظام	بندوبست	نظام الدین، نظام الحق

نام	معنی	نام	معنی
نیاز	آرزو	نوفل	سخی، فیاض
نعمان	نعمت پانے والا	نعمت	دولت، انعام
نعیم	جنت، نیکی، نعمت	نصیح	نصیحت کرنے والا
نواز	عنایت کرنے والا	نوشاد	خوش، پرمسرت
نسیم	نرم ٹھنڈی ہوا	نسیب	عالی نسب
نشاط	شادمانی، مسرت	نجم	روشن ستارہ
ندیم	دوست، ساتھی	نایاب	کمیاب، نادر
نازش	ناز، فخر	نبار	خوش بیان
نفیس	پسندیدہ، عمدہ	نوح	تسکین دینے والا
نائب	قائم مقام	ناجی	نجات پانے والا
ناثر	لکھنے والا، مضمون نگار	نادر	انھوکھا، نایاب
ناظم	انتظام کرنے والا	ناصح	نصیحت کرنے والا
ناصر	مدد دینے والا	نافع	نفع دینے والا، ا
نبیل	نیک، معزز، ذہین	نجم	ستارہ،
ندرت	نادر ہونا	نذیر	ڈرانے والا
نروان	خلاصی، نجات	نذاہت	طہارت، پاکی
نزاکت	لطافت، نرمی	نصیب	قسمت
نصوح	پاک، سچا	نصار	مددگار لوگ
نصیر	مددگار، حمایتی	نظافت	پاکیزگی
نظیر	مثل، نمونہ	نقیب	تشہیر کرنے والا

نقاد	پرکھنے والا	نورانی	منور درخشاں
نواب	رئیس، امیر	نویس	لکھنے والا
نوشیر	نیا دلیر	نوشاب	حیات بخش شربت
نقی	نقابت، تعریف کرنا	نوید	خوشخبری،
نوروز	نیا دن	نہاد	عادت۔ طبعیت
نہال	کامیاب، فتح مند	نیازی	التجا کرنے والا

و

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
وحید	اکیلا	وحیدالحق' وحیدالدین
وکیل	کارساز	عبدالوکیل' وکیل الرحمٰن
ودود	محبت کرنے والا	عبدالودود' ودودالحق
وقار	بردباری	وقارالدین' وقاراحمد
واحد	ایک	عبدالواحد' واحد بخش
وسیم	خوبصورت	وسیم اللہ' وسیم الدین
واثق	مستحکم	محمد واثق' واثق عثمان
وقاص	مخلوط گروہ	وقاص احمد' سعد وقاص
وہاج	بہت چمکیلا	وہاج الدین، وہاج الحسن

نام	معنی	نام	معنی
وارد	دلیر	واصف	تعریف کرنے والا
وجاہت	عزت	وقیع	اونچا
ولی	دوست	وجیہہ	خوش رو

ودید	چاہنے والا	وصی	وصیت کیا ہوا
وصام	اعزاز، تمغہ	ورقہ	ڈھال
وارث	حامی، حق دار	وسامت	حسین ہونا
وصیف	خدمت گار	وقر	شان وشوکت والا
واقد	آگ روشن کرنیوالا	واسط	معتدل
واسع	کشادہ	واسف	اعلیٰ عمدہ
واسطی	تعلق، واسطہ	واجب	لازم، ضروری
واجد	وجود دینے ولا	واعد	وعدہ کرنے ولا
وارثت	میراث، ترکہ	وقاد	طبعیت کا تیز، عقلمند
ولید	کمسن بچہ		

ہ

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
ہادی	راستہ دکھانے والا	عبدالہادی، محمد ہادی
ہدایت	رہبری	ہدایت اللہ، ہدایت الاسلام
ہزیر	سمجھدار	ہزیر احمد، ہزیر حسن
ہدیٰ	راستی	نورالہدیٰ، طالب الہدیٰ
ہاشم	محمدؐ کے پردادا کا نام	محمد ہاشم، ہاشم حسین
ہذام	تیز تلوار، بہادری	ہذام الدین، ہذام خالد
ہداد	عنایت، نرمی	ہداد احمد، ہداد الحسن
ہشام	فیاض، سخی	ہشام الدین، محمد ہشام

نام	معنی	نام	معنی
ہمام	بلند ہمت	ہود	نیک کام کرنا، توبہ کرنا
ہارون	سردار	ہیکل	بلند مرتبہ، عظمت
ہلال	چاند	ہویدہ	آشکارہ، روشن
ہانی	خوش وخرم، خادم	ہاتم	محبت میں متوالہ
ہماس	شیر	ہاجر	نہایت عمدہ
ہزبر	بہت دلیر	ہزت	خوشی، مسرت
ہمایوں	بابرکت، نیک	ہماس	شیر
ہیثم	سخی، فیاض	ہیبت	رعب
ہائم	پیار میں دیوانہ	ہمان	ہم خیال

ی

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
یقین	کامل اطمینان	یقین الحق، یقین الدین
یاور	مدد کرنے والا	یاور الٰہی، یاور الحق
یمیم	قصد کرنے والا	یمیم الدین، یمیم الحق
یونس	رکن، ستون	محمد یونس، یونس احمد
یوسف	حسین وجمیل	محمد یوسف، یوسف حسنین
یعقوب	عقب میں آنے والا	محمد یعقوب، یعقوب علی
یسیر	آسان، سہل	محمد یسیر، یسیر الحسن
یاسین	آنحضرت کا لقب	محمد یاسین، یاسین احمد

نام	معنی	نام	معنی
یاسر	دولت مند	یاقوت	ایک قیمتی پتھر
یامین	امانت دار	یرید	تمنا کرنا، چاہنا
یحییٰ	زندہ رہنے والا	یسارت	دولت مند
یسار	مالداری، فراوانی	یشعر	سمجھنے والا
یارق	چمکدار، روشن	یعسوب	قائد، پیشوا
یازر	لکھنے والا	یاشر	زندہ رہنے والا
یازان	ارادہ رکھنے والا	یزداں	بھلائی کی طاقت
یزدانی	ربانی، خدائی	یمین	سیدھا ہاتھ

www.besturdubooks.wordpress.com

بچیوں کے نام

ا

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
انوار	روشنی	انوار النساء، انوار عائشہ
ابرار	نیک لوگ	ابرار النساء، ابرار عائشہ
اجمل	نہایت حسین	اجمل النساء
ایثار	ترجیح دینا	ایثار النساء، ایثار عائشہ
احتشام	بزرگی	احتشام النساء، احتشام زینب
اخلاق	اچھی عادتیں	اخلاق النساء، اخلاق حفصہ
اشرف	نیک شریف	اشرف النساء، اشرف خاتون
انیسہ	ہمدرد محبت رکھنے والی	انیسہ بیگم، انیس النساء، انیسہ خاتون
ازہر	نہایت روشنی	ازہر النساء

نام	معنی	نام	معنی
آمنہ	امانت والی	ارشاد	نیک ہدایت دینا
امیر	سردار	ادیبہ	علم جاننے والی
الماس	ہیرا	آراء	حسین
الفت	محبت	آرزو	امید
اسعد	نیک بخت	اوصاف	تعریف
امتیاز	تمیز کرنا	احسنت	شاباش
اشتیاق	شوق	آسیہ	ستون، مضبوط عمارت

ازانت	زیبائش	انجم	ستارے
انجمن	محفل	ارفعہ	عالی مرتبہ
اسماء	بہت سے نام	ازلفہ	راستہ دکھانے والی
ایثار	ترجیح دینا	ازعلہ	پرمسرت
اریبہ	ماہرہ	افسیہ	خیال، قیاس
اذفیہ	برگزیدہ، عزت والی	ارفیہ	کسی کی حفاظت میں آنیوالی
انیس	محبت کرنیوالی	امبر	(ہندی زبان میں) نیلا آسمان
انیسہ	غمخوار، ہمدرد	افاضہ	فیض پہنچانا
افشاں	بکھیرنا، سنہرا	اقصیٰ	کنارہ، انتہاء
امینہ	امانت دار	امیمہ	ہدایت دینے والی
ارتاخ	خوش ہونا	امامہ	رہنما، پیشوا
امانہ	وفاداری	اصبح	حسین وجمیل
آسمہ	متحیر، حیران	آسیمہ	حیران، متحیر
آشا	امید، آرزو	آصفہ	قابل وزیر، جمع کرنے والی
آفرین	مرحبا، تحسین، تعریف	آفریدہ	تخلیق کی ہوئی
آنسہ	چاہت کرنے والی	اختر	ستارہ، نصیب
ادا	نازنخرہ،	اذکہ	دریادل،
اذکیہ	زیرک، معاملہ فہم	ارم	جنت
اریدہ	تمنا کی گئی	ارمین	طاقتور، قوی
ارما	طاقتور، قوی	ارینا	صلح، آشتی
اشینہ	حمد، ثنا، تعریف	اطروبہ	خوشبودار، مہک والی
اطہرہ	پاکیزہ	افشین	افشاں سے آراستہ
افروزہ	روشن کیا ہوا	افروختہ	منور، تاباں
الینا	حسین، خوبصورت	انیفہ	خوش آئندہ
انیا	پاکیزہ، خالص	انورہ	روشن کرنے والی

انیتا	دل کو بھانے والی	انسیہ	الفت، پیار، محبت
انوشہ	خوش وخرم	انتظار	راہ دیکھنا
انیلا	ناواقف، نادان	انعامیہ	حنائی کلی
انمول	بہت قیمتی	انگبین	شہد
انجلا	صاف ہونا	اوج	بلندی
ایمن	نڈر، مبارک	اینا	پاکیزہ، خالص
ایمی	آرام دینے والی	ایمل	آرزو، خواہش
ایدا	مسرور، خوش وخرم		

ب پ

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
بصیرت	بینائی	بصیرت النسا، بصیرت رقیہ
بشیر	خوشخبری دینے والا	بشیر النساء، بشیرہ خاتون
برکت	فضل	برکت النساء، برکت عائشہ
بدر	چودھویں کا چاند	بدر النساء، بدر حبیبہ
بشارت	خوشخبری	بشارت النساء، بشارت جویریہ

نام	معنی	نام	معنی
بازغہ	چمکتا ہوا	بتول	کنواری، عفت مآب
بختاور	خوش قسمت	بریرہ	نیک
بارقہ	چمکنے والی	بشریٰ	خوشخبری
بلاغت	فصیح کلام	بدیعہ	انوکھی، نادر
بلیغہ	عاقلہ، مکمل	بدیعہ	عجیب، نادر

بازخہ	فخر کرنے والی	بے نظیر	بے مثال
بشیرہ	خوشخبری دینے والی	برجیس	ستارہ
بلقیس	خوبصورت	بسالت	شجاعت
باصرہ	دیکھنے والی	بشرہ	چہرہ
باذلہ	دریادل	بذلہ	انعام، بخشش
بسیمہ	مسکرانے والی	بلیغہ	عاقلہ، فصیح وبلیغ
بوران	خوبصورت	بہار	پھول کھلنے کا موسم
باسمہ	مسکرانے والی	باقیہ	قائم رہنے والی
بابرہ	شیرنی	بادیہ	بڑا پیالہ، مشک
باسلہ	لڑائی میں حملہ کرنا	باسنا	مہک، خوشبو
بالیدہ	خوش، نمودار	باقندہ	بننے والی
بتولہ	کنواری	بدرہ	محترمہ بیگم
برجیسہ	مشتری	برجیہ	چھوٹے ستارے
برینا	شہزادی،	بزین	چلنے والی ہوا
بسمہ	تازگی، تبسم	بطحہ	فراخ دل
بونیتا	اچھی، پیاری	بہین	اچھی، بہترین، اعلی
بہرہ ہور	خوش نصیب	بینا	عقل مند، سمجھدار
بینش	عقلمند، دانشمند	بیدار	ہوشیار، جاگتا ہوا
پارسا	نیک	پاکدامن	پاک آنچل
پاکیزہ	پاکباز، صاف	پارینہ	قدیم، پرانا
پائیندہ	لافانی	پائندہ	ٹھہرنے والا
پذیرہ	مقبول	پروین	سات ستاروں کا جھرمٹ
پریما	پہلی اولاد	پیا	پارسا، دیندار

ت

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
توقیر	عزت	توقیر النساء، توقیر فاطمہ
تہذیب	شائستگی	تہذیب النساء، تہذیب عائشہ
تعظیم	عزت کرنا	تعظیم عائشہ، تعظیم النساء
تقی	پرہیزگار	تقی النساء
تذہیب	سونے پر پانی چڑھانا	تذہیب النساء، تذہیبہ
تصمیم	مضبوطی	تصمیم النساء، تصمیم خنساء
تنویر	روشنی	تنویر النساء، تنویر فاطمہ
توصیف	خوبی بیان کرنا	توصیف عائشہ، توصیف سلمہ

نام	معنی	نام	معنی
تسنیم	جنت کی نہر	تبسم	مسکراہٹ
تکریم	بزرگی	تہنیت	مبارکباد
تسکینہ	اطمینان والی	تمنا	آرزو
تطہیر	پاکی، تزکیہ	تعبیہ	آراستہ کرنا، سجانا
تشمیرا	چستی	تیسر	آسان، سہولت
تیما	بندی	تمیمہ	دراز قد والی
تلقینہ	ہدایت کرنے والی	تسلیمہ	ماننا، آداب
تسبیحہ	اللہ کی پاکی بیان کرنیوالی	تحسین	تعریف، شاباش (تحسینہ)
تقدیس	پاکیزگی (تقدیسہ)	تارخہ	خوشحال
تمکین	عزت، مرتبہ (تمکینہ)	تابعہ	فرمانبردار

تارفہ	خوشحال	تائبہ	گناہوں سے توبہ کرنیوالی
تبشیرہ	خوشخبری دینے والی	تزمین	اچھی عادت رکھنے والی
تزکیہ	پاک کرنا	تقیہ	ڈرنا
تمدینہ	خوشحال	تطیبہ	خودکوخوشی میں بسانیوالی
تاشفین	مہربان	تاشفہ	مہربان، ہمدرد
تاثیر	نشان، اثر	تانیس	چاہت
تابیدہ	چمکیلی، روشن	تادیہ	پہچانا، ادا کرنا
تابینہ	منور کرنے والی	تابندہ	روشن، منور
تاربہ	دوست ہونا	تانیا	پریوں کی شہزادی
تبرید	ٹھنڈا کرنا	تثمیہ	مستعدی
تثنیہ	دگنا کرنا	تشمیم	خوشبو آنا
تحریم	منع کرنا	تحریمہ	نماز کی پہلی تکبیر
تزئین	زیب وزینت دینا	تسمین	فربہ کرنا، توانا کرنا
تسکین	آسودگی، اطمینان	تضمین	شامل کرنا، ملانا
تقیہ	ڈرنا، چھپانا	تہمینہ	الزام لگانے والی
تلبیہ	حج میں لبیک کہنا	تلعین	تعلیم دینا
تلقین	ہدایت کر	تمدین	خوشحال ہونا
تمرین	دہرانا	تمیم	پکا، مضبوط
تمثیل	مثال، مطابقت	تنقیہ	پاک وصاف کرنا
تنزیلہ	بھیجی ہوئی		

ث

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
ثابت	مضبوط، برقرار	ثابت النساء، ثابت خنساء

ثروت	دولت	ثروت النساء، ثروت خانم
ثمر	پھل	ثمر النساء، ثمرینہ
ثابت	قائم' برقرار	ثابت النساء، ثابت نسرین
ثبات	مضبوط	ثبات عائشہ، ثبات فاطمہ
ثمار	بہت سے پھل	ثمار النساء، ثمار خانم

نام	معنی	نام	معنی
ثریا	ستاروں کا جھرمٹ	ثمن	قدر و قیمت
ثمینہ	قیمتی ، فائدہ مند	ثمرین	پھل' میوہ
ثریا جاہ	بلند مرتبہ	ثقافت	عقلمند' نیک ہونا
ثقابت	چمکیلی، منور ہونا	ثالثہ	فیصلہ کرنے والی
ثمین	بیش بہا	ثمیرہ	فائدہ دینے والی' پھل دار
ثناء	تعریف	ثنیہ	نیک' شریف
ثوبابہ	لباس والی	ثائرہ	بدلہ لینے والی
ثوبیہ	لباس والی	ثاقبہ	چمکیلی' روشن
ثمرہ	پھل ، نفع	ثاغمہ	محبت کرنا
ثقیفہ	عقلمند، چالاک عورت	ثارۃ	بہت بولنے والی
ثانیہ	سیکنڈ، لمحہ، آن واحد	ثریا	سات ستاروں کا جھرمٹ
ثروانہ	دولت مند	ثوبانہ	لباس والی خاتون،
ثائبہ	تیز ہوا	ثارہ	بہت بولنے والی

ج

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
جمال	خوبصورتی	جمال النساء ، جمال فاطمہ

جمیل	حسین	جمیل النساء، جمیلہ بیگم
جلیس	ہم نشین	جلیس النساء، جلیسہ خاتون
جاسرہ	بہادر	جاسرہ عائشہ، جاسرہ حبیبہ، جاسرہ خدیجہ، جاسرہ خنسا
جاریہ	پرستار	جاریۃ النساء، جاریہ عائشہ، جاریہ فاطمہ، جاریہ حبیبہ

نام	معنی	نام	معنی
جسیمہ	فربہ	جلالت	عالی رتبہ
جلیسہ	ہم نشین	جلادت	بہادری
جاذبہ	پرکشش	جائشہ	اعلیٰ، عمدہ
جلیلہ	معززہ	جویریہ	خوشیاں بکھیرنے والی
جُمدہ	معزز، بلند و برتر	جذبیہ	پیار، محبت
جاملہ	خوش اخلاق	جمیلہ	حسینہ
جواں بخت	خوش نصیب	جیواء	خوبصورت گردن والی
جمانہ	موتی، گوہر	جزلہ	مسرور، پرمسرت
جازیہ	بدلہ دینے والی	جاریہ	پرستار، کنیز
جاسرہ	دلیر، شجاع، جری	جانسہ	کسی کی مانند ہونا
جازمہ	ارادہ کرنے والی	جبین	پیشانی
جمیحہ	خوش بخت	جوزی	برکت لانے والی
جینا	شہزادی، نیک بخت	جیشہ	دل
جمیرہ	بادل، زلف	جسرہ	وسیلہ
جوانہ	اللہ کا تحفہ		

ح

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
حرمت	عزت، آبرو	حرمت النساء، حرمت خدیجہ
حدیقہ	باغ	حدیقۃ النساء، حدیقہ تسنیم
حبیبہ	محبت کرنے والی	حبیب النساء، حبیبہ بانو
حور	خوبصورت	حور النساء، حور جہاں
حباب	محبت، پیار	حباب النساء، حباب بانو
حشمت	دبدبہ	حشمت النساء، حشمت آراء
حفیظ	نگہبان	حفیظ النساء، حفیظ سلمہ
حوّا	دنیا کی سب سے پہلی عورت حضرت آدمؑ کی زوجہ محترمہ کا نام	

نام	معنی	نام	معنی
حفصہ	شیر کی بیٹی	حامدہ	تعریف کرنیوالی
حاویہ	ماہرہ، چھا جانیوالی	حافظہ	نگہبان
حسینہ	خوبصورت	حکیمہ	عقلمند
حلیمہ	بردبار	حمیرا	حسین
حنفیہ	دین کی سچی	حنا	مہندی کی پتی
حمیذہ	سمجھدار	حامزہ	خوش اخلاق
حریم	گھر کی چاردیواری	حلیفہ	حمایتی، رفیقہ
حسیمہ	ذی وقار، ذی عزت	حمیدہ	جس کی تعریف کی گئی
حور	خوبصورت	حور العین	بڑی آنکھوں والی خوبصورت
حسامہ	تلوار	حاشدہ	مستعد، چاک و چوبند

حامیہ	حمایت کرنیوالی	حائقہ	سچی، اللہ کی بندگی کرنیوالی
حاسبہ	پرکھنے والی	حافدہ	فرمانبردار
حمادہ	تعریف کرنیوالی	حمامہ	خوبصورت
حاذقہ	عقلمند، ماہر عورت	حریرہ	ریشم
حسنہ	نیکی، بھلائی	حمیمہ	ساتھی، قرابت دار
حمرا	سرخ رنگت والی	حوریہ	نہایت حسین
حمینہ	شرم وحیا والی	حبابہ	محبت کرنیوالی
حسنات	بھلائیاں، نیکیاں	حاکمہ	حکومت کرنے والی
حادیہ	چھاجانے والی	حاشدہ	ہمہ وقت تیار
حاذقہ	دانشمند، کامل	حمادہ	تعریف کرنے والی
حریمہ	پسندیدہ چیز جو حاصل نہ ہو	حسیبہ	حساب کرنے والی
حمیلہ	ضامن	حیانہ	عمر
حمالہ	سرخ رنگ	حیمہ	مہمان، ذی عزت

خ

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
خدیجہ	(آنحضرتؐ کی پہلی بیوی کا نام)	خدیجۃ النساء
خلیفہ	ملنسار	خلیقۃ النساء
خطیبہ	وعظ کرنیوالی	خطیبۃ النساء
خیر	نیکی بھلائی	خیر النساء
خبیرہ	خبر رکھنے والی	خبیرۃ النساء
خطیرہ	بزرگی، بڑی	خطیر النساء

نام	مَعْنی	نام	مَعْنی
خادمہ	خدمت گار	خالدہ	ہمیشہ رہنے والی
خطابہ	بہت تقریر کرنیوالی	خلیطہ	شریک، شامل
خلیفہ	جانشین	خلیلہ	دوست
خاشعہ	انکساری کرنیوالی	خنساء	ہرنی
خضراء	سرسبز	خولہ	منتظم ، دھیان
خشار	سجائی ہوئی	خفیفہ	چھوٹی
خوباں	حسین، خوبصورت	خورشیدہ	سورج ، منور
خندہ	خوش، مسکراہٹ	خائلہ	فخر میں مقابلہ کرنا
خانم	امیرزادی، بیگم	خاشعہ	انکساری کرنے والی
خدیرہ	نیکی کرنے والی	خدینہ	دوست، رفیق حیات
خزینہ	دولت، خزانہ	خضراء	سرسبز
خوشنودہ	مسرور، خوش	خورشیدہ	سورج، روشنی
خیرہ	شوخ چشم، حیران		

د

نام	مَعْنی	نام رکھنے کا طریقہ
درأیت	شعور، عقل	درأیت النساء، درأیت عائشہ، درأیت سودہ
دلاص	نرم و چمکدار	دلاص النساء، دلاص فاطمہ، دلاص مریم
دیانت	انصاف	دیانت النساء، دیانت حفصہ، دیانت حبیبہ
دلیل	رہنما	دلیل النساء، دلیل خانم
دلہاث	شیر	دلہاث النساء، دلہاث عائشہ
		دلہاث خنساء، دلہاث ہاجرہ

نام	مَعنی	نام	مَعنی
درخشاں	روشن	دردانہ	موتی کا دانہ
دلشاد	خوش خرم	دلاور	بہادر
درشہوار	بادشاہوں کے قابل بڑا موتی	داملہ	نرمی سے پیش آنا
دانیا	دریادل	درباء	جاننے والی
درہ	بہت بڑا موتی	دمیہ	خیر و برکت
دیبا	باریک ریشم	دیانہ	مذہب، ملت
دیناء	اطاعت	داعصہ	عزت میں مقابلہ کرنا
دائمہ	ہمیشہ رہنے والی	دانست	دانش، سمجھ
درخشندہ	چمکدار، روشن	دُرثمین	گراں قدر موتی،
دسیعہ	عمدہ، بہت	دشیا	مبارک روز
دمامہ	رونق، نظارہ	دمیشا	مالدار، امیر
دختر	بیٹی	درشنا	روشن
دیماء	دائمی، ابدی، تیز بارش	درمانہ	چارہ گر
درایت	عقل	درونہ	سینہ، دل

ذ

نام	مَعنی	نام رکھنے کا طریقہ
ذکاء	ذہانت	ذکاءالنساء
ذکی	ذہین	ذکی النساء
ذلاقت	فصاحت	ذلاقت النساء، ذلاقت مریم، ذلاقت عائشہ
ذکاوت	دانائی، ذہانت	ذکاوت النساء، ذکاوت سودہ، ذکاوت حفصہ

نام	معنی	نام	معنی
ذکیہ	تیز فہم	ذاکرہ	ذکر کرنے والی
ذیشانہ	شوکت والی	ذردہ	پہاڑ کی بلندی
ذمیرہ	حسین، بہادر	ذوقانہ	اچھی طبیعت والی
ذمارہ	دلیر، بہادر عورت	ذبامہ	رتبہ والی، عزت والی
ذبالہ	چراغ کی بتی	ذراعہ	ہاتھ
ذرخہ	آنسوؤں کا بہاؤ	ذمامہ	عزت، حرمت
ذوقیہ	پسندیدہ، مرغوب	ذکیرہ	بہت زیادہ ذکر کرنے والی
ذابرہ	علم جاننے والی	ذریرہ	خوشبو
ذابلہ	مست آنکھوں والی	ذہینہ	ہوشیار، تیز فہم
ذافرہ	علم جاننے والی	ذلیقہ	اچھا بولنے والی
ذاہرہ	عالم، فاضل	ذرینہ	خوبصورت
ذمیم	شبنم	ذمامہ	جرات

ر

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
رحمت	مہربانی	رحمت النساء
راحت	آرام	راحت النساء، راحت فاطمہ
راشد	ہدایت یافتہ	راشد النساء، راشدہ
رفعت	برتری	رفعت النساء، رفعت عائشہ
رفیع	بلند مرتبہ	رفیع النساء، رفیعہ
رحیم	مہربان	رحیم النساء، رشاقت آرا

رمشاء	خوبصورت	رمشاء النساء ٗ رمشاء نورین
ریاض	شیر	ریاض النساء ٗ ریاض خنساء

نام	معنی	نام	معنی
رائمہ	چاہنے والی	ربیسہ	جرأت مند
رخسارہ	گال کا بالائی حصہ	رشیدہ	ہدایت یافتہ
رافعہ	بلندی	رضوانہ	رضامندی
رقیبہ	نگہبان	رائسہ	سردارہ
رقیہ	پڑھنے والی	رفیعہ	بلند مرتبہ
رفیہ	پسندیدہ	راحمہ	مہربان
رعنا	خوشنما	راعیہ	بہت الفت کرنے والی
راسیہ	مضبوط	رافتہ	فضل ٗ مہربانی
راحلہ	مددگار	راغہ	خوبصورت ٗ شہزادی
رحیمہ	مہربانی کرنے والی	رخیمہ	نرم آواز والی
راعنہ	خوبصورت شہزادی	روبینہ	فولاد
رشیقہ	خوش مزاج	رصیفہ	حبیبہ ٗ ساتھی
رعیلہ	آگے رہنے والی	رہیدہ	نازک ٗ نرم
ریحانہ	پھول کی خوشبو	روحبہ	مسرت ٗ خوشی
روفیہ	شفقت والی	رمیلہ	سجانے والی
رجیلہ	ثابت قدم	رحیقا	اچھے قد و قامت والی
راشدہ	ہدایت یافتہ	رافقہ	نرمی کرنیوالی، اچھی طبیعت
راسبہ	تحمل والی ٗ بردبار	راہبہ	فرمانبردار عورت
رخسانہ	صبح صادق	رواء	حیاء والی
رزینہ	مضبوط ٗ پائیدار	رضیہ	خوش ہونے والی

رفیقہ	دوست، حبیبہ	رفیفہ	چمک والی، نرم کپڑا
رمیزہ	سمجھدار	روحانہ	خوشبوئیں
رومینہ	محبت پیار والی	روشنا	چمکنے والی
رجیہ	احترام کرنا	راختہ	فضل، کرم
رابعہ	چوتھی چیز	راتبہ	ثابت، قائم
رائحہ	مہک، خوشبو	راحیدہ	رسد پہنچانے والی
راضیہ	خوش ہونے والی	راشفہ	ساتھ چلنا
رافیہ	پناہ لینا	رجاب	عزت کرنا
راویہ	بیان کرنے والی	راصدہ	نگرانی کرنے والی
راجیہ	سائلہ، امیدوار	رائقہ	حسین، خوبصورت
رانیا	ملکہ	رافضہ	چمکنے والی
ربیعہ	بہار کی چیز	رتبہ	مرتبہ، عہدہ
رجاء	امید، بھروسہ	رحیلہ	سفر کرنے والی
رحین	کریم، مہربان	رحابہ	فراخی، کشادگی
رخشندہ	روشن، منور	رخسار	گال، عارض
رخشاں	روشن، چمکیلی	رفیعہ	اونچی، بلند و بالا
رداء	چادر	رشحہ	رس، بوند قطرہ
رشدہ	ہدایت والی	رشیبا	سچائی، راستی
رشتیا	راستی، سچائی	رصفیہ	نمونہ، مثال
رضیفہ	دوست، ساتھی	رعدہ	خوش، مسرور
رعینہ	انعام و اکرام	رغیبہ	برکت، نعمت
رفسانہ	طلوع، صبح، صبح صادق	رغیبہ	رغبت کرنے والی
رفعت	بلندی، بالائی، اونچائی	رمیہ	زیادتی، فراوانی
رمیلہ	آراستہ کرنے والی	روحہ	روح، زندگی
رمیزہ	سمجھدار	رویدہ	آہستگی سے کیا ہوا

رومانہ	محبت والی	روہینہ	فولاد، لوہا
روحیلہ	مسافرہ	رومیلہ	آراستہ و پیراستہ کرنے والی
ربینا	درخشاں، شہرت	روہین	فولاد، آہن، لوہا
روین	موتیا کا پھول	رویا	خواب
روزا	خوبصورت،	روزینا	گلاب کا پھول
رئیسہ	مالدار، دولت مند	ریماء	سفید ہرن
رینا	شہزادی	ریشم	حریر، سلک
ریا	موہ لینے والی		

ز

نام	مَعنی	نام رکھنے کا طریقہ
زعیم	کفیل ضامن	زعیم النساء
زینت	آراستگی	زینت النساء
زیب	زینت	زیب النساء
زنیق	مضبوط مستحکم	زنیق النساء

نام	مَعنی	نام	مَعنی
زوہرہ	ایک ستارہ	زہرہ	کلی، شگوفہ
زاہدہ	پارسا عورت	زبیدہ	منتخب کی ہوئی
زینب	سخی، خوشبودار	زبدہ	تازہ مکھن، برگزیدہ
زرقام	سبز و نیلی آنکھوں والی	زریں	بیش قیمت
زہیدہ	صبر کرنے والی	زاہلہ	پرسکون دل والی
زلیخا	حسین و جمیل عورت	زین	سجاوٹ، خوبی

زیبا	موزوں، خوشنما	زہیرہ	منور، روشن، چمکیلی
زاہرہ	روشن، چمک دار	زعیمہ	سردار، امیر
زکیہ	پاکیزہ، نیک	زونا	عقلمند عورت
زوقہ	گھر کو سجانے والی	زواہر	کھلے ہوئے پھول، روشن
زارہ	ملاقات، انکساری	زاولہ	نیت کرنا
زائرہ	زیارت کرنے والی	زارا	طلوع صبح
زارینہ	ملکہ	زرقا	سبز و نیلی آنکھوں والی
زرینہ	گولڈن، سنہری	زرمینہ	رئیس عورت
زرمین	رئیس	زعفرہ	زعفران میں
زلقہ	آئینہ، شیشہ	زویا	زندگی
زورینہ	طاقت والی	زورین	زور آور
زوبیہ	اللہ تعالیٰ کا تحفہ	زورینا	صبح صادق
زورانا	فجر کا وقت	زہدہ	برگزیدہ
زینا	مہمان نواز	زیتون	درخت کا نام
زینہ	سجاوٹ کرنے والی	زینیا	ایک پھول کا نام

س

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
سعادت	خوش بخت	سعادت النساء، سعادت عائشہ
سمیحہ	بہادر، آسان	سمیح النساء، سمیحہ نسرین
سلیم	تندرست	سلیم النساء، سلیمہ، سلامت، تندرستی
		سلامت النساء، سلامت جہاں
سحر	صبح، فجر	سحر النساء، سحر بانو
سرور	رہنمائی	سرور النساء، سرور بیگم

نام	معنی	نام	معنی
سائرہ	سیر کرنے والی	سالمہ	محفوظ
ساجدہ	سجدہ کرنے والی	سعدیہ	نیک
سالکہ	پابند شرع	سعادت	نیک بخت
سکینہ	آرام کی چیز	سیما	علامت، نشان
سلیقہ	شعور	سنبلہ	نیک، سعادت مند
سائمہ	سیر کرنے والی	سامیہ	بلند و بالا، عالی
سالمہ	صلح کرنا، مصالحت کرنا	سارہ	حجاب، پردہ
ساہرہ	بیدار، ہوشیار	ساخرہ	دل میں گھر کرنے والی
ساعفہ	مددگار	ساعدہ	شیر
سبیلہ	طریقہ، صاف آراستہ	سجیلہ	آراستہ کی ہوئی
سجافہ	پردہ، حجاب	سحرہ	فرمانبردار
سخیہ	سخاوت کرنے والی	سدافہ	حجاب، پردہ
سدیمہ	بہت ذکر کرنے والی	سردہ	بیری کا درخت
سریسہ	نگہبان، عقلمند	سعودہ	مبارک، خوش قسمت
سلیمہ	بردبار، سادہ دل	سلیطہ	خوش کلام، فصیحہ
سلمٰی	تسلیم، درست	سلامہ	پاکیزہ
سمینہ	پاکیزہ، گفتگو	سمیدہ	نیک، بہادر
سامہ	حسین جسم والی	سمیہ	حسن و جمال
سیادت	بزرگی	سودہ	سرداری
سیرہ	حسین وجمیل	سامیہ	بلند و بالا، عالی
سارہ	حجاب، پردہ	سدرہ	بیری کا درخت
سعیدہ	نیک، خوش قسمت	سمراء	گندمی رنگت والی

سمیا	بلند و بالا	سلامہ	پاکیزہ
ساحنہ	اخلاق سے پیش آنا	سارا	شہزادی
ساریہ	بادل	ساحبہ	تیز بارش
ساحرہ	جادوگر،فریفتہ	سارینا	شہزادی
سادیہ	شہزادی، بادشاہ کی بیٹی	ساشا	مددگار
سامعہ	سننے کی طاقت	ساحنہ	اخلاق سے پیش آنا
ساعقہ	مددگار	سالکہ	عبادت گزار
سبا	شہر کا نام	سبرینا	شہزادی
سبیتا	اطمینان، تسلی، فرصت	سحرش	مسحور کن، جادو بھری
سحرہ	فریفتہ ہونا	سحابہ	بادل کا ٹکڑا
سریسہ	دانشمند، عقلمند، دانا	سرور	رہنمائی، بزرگی
سروری	بزرگی، رہبری	سربعہ	فوری اثر کرنے والی
سریعہ	جلد اثر کرنے والی	سروش	خوشخبری لانے والا
سرینا	مطمئن، پرسکون	سریرہ	راز، بھید
سزیدہ	اہل، قابل	سفیرہ	ایلچی، قاصد
سلیفہ	فصیح، عمدہ بیان	سلطانہ	حکمران عورت
سلومی	آرام وسکون والی	سمامہ	خوبصورت جسم والی
سمیرہ	داستان سنانے والی	سمارا	دور اندیش
سمونا	بارگاہ میں مقبول	سمیتا	موتیوں کا ہار، مالا
سانیہ	بلند و بالا، روشن	سنیلہ	نیک خصلت، سعادت مند
سنجیدہ	خاموش طبع، متین	سونیا	سمجھدار، عقلمند
سویرا	صبح کا وقت	سہامہ	تیز بردا
سہیرہ	خوبصورت، حسین	سیدہ	سردار

ش

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
شمس	آفتاب	شمس النساء
شرف	بلندی	شرف النساء
شریف	عالی خاندان	شریف النساء
شفقت	محبت، مہربانی	شفقت النساء

نام	معنی	نام	معنی
شکیلہ	خوبصورت	شفیقہ	مہربان
شہیلا	عالی خاندان	شاعرہ	شعر گو
شاکرہ	شکر گزار	شاہدہ	گواہ، حسین و جمیل
شارفہ	شرف والی	شائزہ	عجیب و غریب، انوکھی
شارقہ	روشن، منور	شائقہ	باوقار
شبیعہ	عقلمند، دانا	شبالہ	شیرنیاں
شجیعہ	دلیر، بہادر	شریقہ	خوبصورت
شریفہ	نیک لڑکی	شرمیلہ	حیادار
شفیفہ	بہت محبت کرنے والی	شکیبہ	بردبار
شمرہ	دریادل، سخی	شمیرہ	تجربہ کار، محنتی
شہلہ	گہری نیلی آنکھوں والی	شیما	طبیعت، عادت
شازیہ	نادر، عجیب	شائستہ	مہذب، باسلیقہ
شاذیہ	انوکھی	شادیہ	سرور، مسرت
شافیہ	شفا دینے والی	شاہانہ	بادشاہوں کے لائق

شانفہ	وفا کرنے والی	شافعہ	شفاعت کرنے والی
شبنم	رات کو پڑنے والی نمی	شبانہ	بکریاں چرانے والی
شریکہ	حصہ دار، شامل	شصیفہ	پیار کرنے والی
شگفتہ	کلی، ان کھلا پھول	شمیمہ	مہک، خوشبو
شمامہ	بھینی خوشبو	شمائلہ	شکل، چہرہ
شمرانہ	بردبار، سنجیدہ	شمیلہ	عادت، طبیعت
شمشاد	خوبصورت درخت	شمیم	مہک، خوشبو
شمع	چراغ	شنیدہ	سنا ہوا
شہیرہ	نامور، مشہور	شہناز	دلہن
شہلا	گہری نیلی آنکھوں والی	شہزادی	بادشاہ کی بیٹی
شیلہ	شیرنی	شیبا	فریفتہ،
شیریں	مٹھاس، میٹھی	شینا	خلیق، ملنسار
شیدہ	چمکدار	شیوا	خوش کلام
شیرانہ	شہد جیسی میٹھی	شیفتہ	فریفتہ عاشق

ص

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
صبیح	خوبصورت	صبیح النساء، صبیحہ
صداقت	سچائی	صداقت النساء
صرامت	بہادری، بزرگی	صرامت النساء
صائبہ	مستقیم، سیدھی	صائب النساء

نام	مَعنی	نام	مَعنی
صدیقہ	نہایت سچی	صدیقہ	مخلص دوست
صادقہ	منصف، سچی	صالحہ	نیک عورت
صاحبہ	سہیلی	صائمہ	روزہ رکھنے والی
صولت	رعب	صباحت	خوبصورتی
صفیہ	پاک دامن	صدف	سیپی، سیپ
صابرہ	صبر کرنے والی	صفورہ	برگزیدہ، متقی
صبیحہ	خوبصورت	صباحیہ	حسن، جمال
صریمہ	عزم، ارادہ	صمیدہ	قناعت کرنیوالی
صمیمہ	سچی، مخلص	صفدری	صفوں کو پھاڑنے والی
صغریٰ	چھوٹی، کمسن	صبیہ	بیٹی، صاحبزادی
صراحہ	تفصیل سچائی	صعیدہ	مٹی، خاک
صنوبر	سرو کا درخت	صنیعہ	شرافت، بھلائی
صوفیہ	متقی عورت	صیمہ	بہادر
صارمہ	جرات مند عورت	صاقبہ	نزدیک کرنا، قریب کرنا
صاعدہ	اونچائی پر چڑھنے والی	صبیرہ	قناعت کرنے والی، صابرہ
صباح	خوبصورت	صباحہ	حسین وجمیل
صبا	موسم بہار کی ہوا	صغیرہ	کم عمر
صنیعہ	نیکی، شرافت	صوفیہ	پرہیزگار عورت
صوفیا	دانائی، دانشمندی		

ض

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
ضمیر	خیال	ضمیر النساء
ضیاء	روشنی	ضیاء النساء
ضمین	کفیل	ضمین النساء
ضبط	انتظام	ضبط النساء
ضرغامہ	شیرنی	ضرغام النساء
ضبور	ببر شیر	ضبور النساء

نام	معنی	نام	معنی
ضاحکہ	ہنسنے والی	ضریبہ	خصلت، عادت
ضحاکہ	بہت ہنسنے والی	ضامرہ	پوشیدہ، چھپی ہوئی
ضافرہ	مدد کرنے والی	ضمرہ	پتلی کمر والی
ضوفشاں	روشن، چمکدار	ضادہ	فتح پانا
ضابطہ	انتظام کرنے والی	ضتیفہ	مہمان داری کرنا
ضامنہ	ضمانت دینے والی	ضمیرہ	دل میں گزرنے والی بات

ط

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
طاہر	پاک، صاف	طاہر النساء
طہور	پاک	طہور النساء، طہور زینب

طبیب	حکیم	طبیب النساء
طیب	پاک، لذیذ	طیب النساء
طعب	خوشبو، مزہ	طعب النساء
طلیق	ہنس مکھ	طلیق النساء، طلیق عائشہ

نام	معنی	نام	معنی
طالعہ	نصیب والی	طاہرہ	پاک
طریفہ	عمدہ	طبیبہ	حکیم
طریرہ	خوبصورت عورت	طیبہ	پاک، لذیذہ
طوبیٰ	پاکیزہ تر، سعادت	طالبہ	علم حاصل کرنے والی
طابنہ	سمجھدار	طرازیہ	آرائش کرنے والی
طرفہ	خوبصورت، عمدہ چیز	طلعت	نضارہ، دیدار
طلیقہ	خوش مزاج	طہیرہ	پاکیزہ، پاک صاف
طلیعہ	بلند ہونا، نکلنا	طائلہ	دولت مند فائدہ
طبنہ	ہوشیاری	طروبہ	خوش وخرم
طلالہ	خوبصورتی، خوشی	طابعہ	فرمانبردار عورت
طائرہ	اڑنے والی	طالیہ	اللہ تعالیٰ کا تحفہ

ظ

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
ظفر	کامیابی	ظفر النساء
ظہیر	حمایتی	ظہیر النساء
ظریف	خوش طبع	ظریف النساء
ظرافت	خوش طبع	ظرافت النساء

نام	معنی	نام	معنی
ظہیرہ	حمایتی	ظعیفہ	پردہ نشین عورت
ظریفہ	خوش طبع	ظہورا	رونق
ظرافہ	بڑی خوش طبع	ظہرہ	دوست، رفیق
ظافرہ	کامیاب	ظفارہ	ایک خوشبو
ظفیرہ	ہر جگہ کامیاب		

ع

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
عطافت	مہربانی	عطافت النساء
عنایت	احسان، توجہ	عنایت النساء
عتیق	بزرگ	عتیق النساء
عظمت	بڑائی، قدر	عظمت النساء
عمر	زندگی	عمر النساء، عمرانہ
عقیل	سمجھ دار	عقیل النساء، عقیلہ
عصمت	پاکیزگی	عصمت النساء، عصمت فاطمہ
عصود	نازک جسم والی	عصود النساء

نام	معنی	نام	معنی
عنبر	ایک خوشبو	عنبرین	عنبر کی طرح خوشبودار
عنبرینہ	ایک زیور کا نام	عمارہ	دستار، سورج
عمیمہ	سب پر حاوی، تمام	عفیرہ	معاف کرنے والی

عظمیٰ	برگزیدہ	عظمت	بزرگی
عمیدہ	برگزیدہ،معزز	عمارہ	عبادت گزار
عویسہ	حبیبہ، مددگار	عمیرہ	لبریز، معمور
عفیفہ	پارسا	عطیہ	انعام،بخشش
عابدہ	عبادت کرنے والی	عظیمہ	بزرگ، عظیم خاتون
عادلہ	منصف، منصفہ	عالیہ	بلندوبالا
عزیزہ	پیاری قرابت دار	عقیلہ	سمجھدار عورت
عصمت	پارسائی	عارفہ	اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی
عفرین	ہوشیار	عاطفہ	شفقت کرنے والی
عاصمہ	منع کرنیوالی	عاطرہ	خوشبودار
عصرہ	تیز خوشبو	عافیہ	خیروعافیت پوچھنے والی
عاقلہ	سمجھدار	عاشرہ	مل جل کے رہنے والی
عبیرہ	خوشبو، مہک	عتیقہ	برگزیدہ
عذرا	دوشیزہ	عتیلہ	خدمت گار
عدیلہ	انصاف کرنے والی	عدوس	بہادر عورت
عزرہ	طاقت، قوت	عرفانہ	شعور،علم والی
عروج	اونچائی، بلندی	عطیفہ	مہربان
عائشہ	آرام پانے والی	عنایت	احسان،کرم
علیمہ	علم رکھنے والی	عریفہ	سردار، رہنما
عاتکہ	نیک، پارسا	عامرہ	آباد کرنے والی
عاصرہ	لبریز،معمور	عائنہ	چیک کرنا،نظر کرنا
عابرہ	غوروفکر کرنے والی	عاتقہ	کشادہ،فراخ
عبرہ	غوروفکر،نصیحت،توجہ	عبیلہ	صحت مند
عدیمہ	نادر،نایاب	عذرا	دوشیزہ
عذرہ	دوشیزگی	عریفہ	پہچاننے والی

عربیہ	عرب کی عورت	عصفہ	پاکباز
عروسہ	دلہن	عریسہ	دلہن
عرونہ	پہچان کرنے والی	عزیہ	لگاؤ،لگن،صابرا
عصفہ	ایک پھول	عطفہ	دوستی،رفاقت
عفانہ	درگزر کرنے والی	عویسہ	رفیقہ،معاون
عمیمہ	سب پر حاوی	عمرانہ	آبادی،معاشرت
عودہ	نہایت،مفید	عیزہ	خاص،مہک
عینہ	چشم دید	عینا	خوبصورت آنکھوں والی
عیمہ	عمدہ حال،اچھا حال		

غ

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
غیرت	شرم، عار	غیرت النساء
غیور	غیرت دار	غیور النساء،غیور عائشہ
غفیر	چھپانے والا	غفیر النساء
غیض	کلی،شگوفہ	غیض النساء
غرام	محبت، پیار	غرام النساء،غرام سائرہ
غلیم	خوبصورت	غلیم النساء

نام	معنی	نام	معنی
غانیہ	باعصمت	غربیلہ	ناز، نخرہ
غاویہ	صبح کی بارش	غشمیرہ	سخی، فیاض
غمامہ	بادل، ابر	غالیہ	مشک وکافور کی مرکب خوشبو

غازیہ	کافروں سے لڑنے والی	غافرہ	معاف کرنے والی
غاضفہ	خوشحال زندگی گزارنے والی	غفوراں	معاف کرنے والی
غاشیہ	پردہ، پردہ پوش	غزالہ	محبوب' ہرنی
غضارہ	خوشحالی، آسودگی	غیدا	خوبصورت عورت
غافنہ	نازک دل	غالیہ	فتح کرنے والی

ف

نام	مَعنی	نام رکھنے کا طریقہ
فخر	ناز	فخرالنساء
فرحت	خوش خرم	فرحت النساء
فضل	بخشش، بزرگی	فضل النساء
فصاحت	خوش کلامی	فصاحت النساء
فراست	سمجھدار	فراست النساء

نام	مَعنی	نام	مَعنی
فارعہ	خوش مزاج	فاضلہ	بزرگ عورت
فاطمہ	جہنم کی آگ سے بچانے والی	فوزیہ	کامیاب
فصیحہ	خوش گفتار	فاخرہ	فخر کرنے والی، معزز
فرحانہ	مسرور، خوشی	فوقیہ	سبقت لے جانیوالی
فاکہہ	میوہ، خوش مزاج	فائزہ	جیتنے والی
فارہ	سمجھدار	فائقہ	بلند و بالا
فارقہ	امتیاز کرنے والی	فتیہ	سخی، بہادر، عورت
فاریہ	خوبصورت لڑکی	فرازیہ	اونچائی بلندی

فریحہ	خوش وخرم	فرحینہ	خوش وخرم عورت
فحیلہ	اچھے خاندان والی	فلزہ	محبوب، جگر کا ٹکڑا
فہمیدہ	عقلمند، دانا	فردوس	جنت
فاطنہ	عقل مند	فاکرہ	غور وفکر کرنے والی
فارہہ	خوبصورت لڑکی	فائضہ	فیض دینے والی
فتین	ہوشیار، زیرک	فریبا	فریفتہ
فرخندہ	مبارک، نیک	فریدہ	لاثانی
فرحین	پرمسرت	فرزانہ	سمجھدار، عقلمند

ق

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
قرۃ	ٹھنڈک	قرۃ النساء، قرۃ العین
قمر	چاند	قمر النساء
قطب	ولی	قطب النساء
قبول	ماننا	قبول النساء
قسامت	خوبصورتی	قسامت النساء
قعید	ساتھی، دوست	قعید النساء

نام	معنی	نام	معنی
قرینہ	سلیقہ	قیصر	شہنشاہ
قابلہ	لائق عورت	قسیمہ	مشک کا نافہ، خوبرو
قرۃ العین	آنکھوں کی ٹھنڈک	قمراء	چاندنی، روشنی
قاسرہ	قناعت کرنے والی	قاشمہ	عنایت کرنے والی

قانتہ	فرمانبردار، خاموش	قدومہ	سخی، دلیر
قدوسیہ	پاکیزہ، متبرک	قدامہ	سردار، برگزیدہ
قریحہ	عمدہ، بہتر	قطبیہ	برگزیدہ عورت
قاصفیہ	فیصلہ کرنے والی	قویمہ	خوش قامت، پائیدار
قمربن	چاندوسورج	قتیلہ	شہید
قدیمہ	اونچی، بلند، رئیسہ	قاریہ	خوش الحانی سے قرآن پڑھنے والی
قاضیہ	فیصلہ کرنے والا	قاسمہ	تقسیم کرنے والی
قدوہ	رہنما، پیشوا، امیر	قدسیہ	پاکیزہ، پاک
قرینہ	انداز	قنیبہ	شگوفہ، غنچہ
قوسیہ	کمان رکھنے والی		

ک گ

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
کنیز	خادمہ	کنیز عائشہ، کنیز فاطمہ، کنیز حفصہ، کنیز زینب
کبیر	بزرگ	کبیر النساء
کریم	سخی	کریم النساء
کاملہ	ماہرہ، کامل	کاملۃ النساء
کاظمہ	غصہ ضبط کرنے والی	کاظمۃ النساء
کسول	نازونعمت سے پلنے والی	کسول النساء
کومل	نرم ونازک	کومل النساء
کمال	قابلیت	کمال النساء

نام	معنی	نام	معنی
کوثر	بہشت کی ایک نہر	کرامت	انوکھی چیز
کاملہ	مکمل، کامل	کشور	ولایت، اقلیم
کرن	شعاع	کلثوم	بھرے رخسار، ابھرے گال
کابرہ	عظیم، برگزیدہ	کافیہ	قناعت کرنے والی
کامنہ	چھپنے والی	کریمہ	سخی عورت
کانسہ	ہروقت پناہ گاہ میں رہنے والی	کبیرہ	بزرگ عورت
کبریٰ	عظیم، بزرگ	کانبہ	خوشحال، آسودہ
کاشفہ	ظاہر کرنے والی	کنیز	نوکرانی، کنواری
کسفیہ	پردہ کرنے والی	کفیلہ	کفالت کرنے والی
کلیمہ	کلام کرنے والی	گلفام	گل رنگ
گلفدا	گلاب جیسی	گلنار	پھول پہ ناز کرنے والی
گلفشاں	پھول بکھیرنے والی	گلنار	انار کی ایک قسم

ل

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
لطف	عمدگی	لطف النساء
لئیق	قابل، لائق	لئیق النساء
لبیب	عقلمند	لبیب حفصہ، لبیب سلمہ
لیاقت	قابلیت	لیاقت عائشہ، لیاقت سودہ
لطیف	نازک، باریک بین	لطیف النساء

لعوب	نازونخرہ والی	لعوب النساء
لیث	شیر،خوش بیاں	لیث النساء،لیث خنساء
لبیق	دانا،عقلمند	لبیق النساء

نام	معنی	نام	معنی
لبیہ	سمجھدار عورت	لطیفہ	دلچسپ بات، نازک
لبنیٰ	دودھ جیسے رنگ والی	لطافت	نرم،خوبی
لقاعہ	حاضر جواب	لامعہ	چمکنے والی،منور
لامیہ	زلفوں والی	لاثمہ	محبت کرنے والی
لزیرہ	پارسا عورت،عقلمند	لیلا	سیاہ،سانولی
لائقہ	قابل عورت	لطفانہ	نیکی اور بھلائی کرنیوالی
لبوہ	شیرنی	لبیقہ	دانا عورت
لفیقہ	لپٹی ہوئی، دوست	لفاظہ	خوش بیاں
لفیفہ	لپٹی ہوئی	لزیرہ	عقلمند، پرہیزگار
لئیقہ	قابل، لائق	لینا	ہمت،حوصلہ
لیقہ	عقلمند، دانا		

م

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
مرغوب	پسندیدہ	مرغوب النساء
مشکور	ممنون	مشکور النساء
معراج	بلندی	معراج النساء.
مطلوب	مانگا ہوا، محبوب	مطلوب النساء

منیر	روشن	منیرالنساء
مصباح	چراغ	مصباح النساء
مقبول	پسندیدہ	مقبول النساء
متاع	اثاثہ	متاع النساء

نام	مَعنی	نام	مَعنی
مجیدہ	بزرگ، بڑی	محمودہ	تعریف کی گئی
محصنہ	پرہیزگار	مدیحہ	تعریف کرنے والی
میمونہ	مبارک	مومنہ	ایمان لانے والی
مقصودہ	مطلوبہ، غرض	مریحہ	بہت خوش
مفضالہ	احسان کرنے والی	مسلمہ	دین اسلام کی پیروی کرنیوالی
مسرت	خوشی	مجاہدہ	اللہ کی راہ میں جہاد کرنیوالی
مسعودہ	نیک عورت	منصفہ	ثمادلہ
مریم	پاکیزہ	مشرف	شرف یافتہ
مدبرہ	عقل مند	منزہ	نقائص سے پاک
منیبہ	حق کی طرف پھیرنے والی	مدحت	تعریف
معزہ	باوقار	ماصفہ	نیک، شریف
مادخہ	معززہ، محترمہ	مازیہ	بلند مرتبہ، مختار
مائلہ	محبت کرنا	ماجدہ	قابل احترام
ماریہ	سفید رنگ کی عورت	مبشرہ	خوشخبری دینے والی
محسنہ	احسان کرنے والی	منیرہ	روشن، چمکدار
ماثرہ	اچھے کام کرنے والی	مازحہ	خوش طبعی کرنا
مامونہ	حفاظت میں	مائرہ	قابل تعریف
مبصرہ	پرکھنے والی	مجیبہ	قبول کرنے والی

مجازیہ	جزا دینے والی	مخدومہ	مالکہ، آقا
محمودہ	تعریف کی گئی	مریحہ	بہت خوش
مرافقہ	ساتھ دینے والی	مرضیہ	پسند کی ہوئی
مرغوبہ	پسندیدہ	مرشدہ	سیدھی راہ دکھانے والی
مسرور	پرمسرت، خوشی	مستورہ	پوشیدہ، چھپی ہوئی
مشیرہ	مشورہ دینے والی	مصدقہ	تصدیق کی ہوئی
مطہرہ	پاکیزہ، منزہ	مطربہ	خوش کرنے والی
مطلوبہ	مانگی ہوئی	معصومہ	بے گناہ،
معروفہ	شہرت رکھنے والی	مغیرہ	جلدی کرنے والی
مفیدہ	منافع بخش	مفاخرہ	فخر کرنے والی
مقدسہ	پاکیزہ، پاک، منزہ	مقدرہ	مقرر کی ہوئی
ملکہ	قابلیت، لیاقت	ملیحہ	حسین وجمیل
ممیّزہ	ممتاز	منصورہ	فتح ونصرت دی ہوئی
منشہاء	ارادہ، مراد	منیقہ	عظیم، برگزیدہ
منیفہ	برتر، بزرگ	موصوفہ	تعریف کی ہوئی
مینا	زریں نقش ونگار	میرا	شہزادی

ن

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
نعیم	بہشت	نعیم النساء
نفیس	عمدگی	نفیس النساء
نجم	ستارہ	نجم النساء
نجیب	بھلامانس	نجیب النساء

نصیحہ	نصیحت کرنیوالی	نصیحۃ النساء، نصیحۃ عائشہ
نزاہت	پاکیزگی	نزہت النساء
نسیم	خوش گوار ہوا	نسیم النساء
نور	روشنی، چمک	نور النساء

نام	مَعنی	نام	مَعنی
نمیرہ	پاک دامن عورت	نویرہ	پھولوں کی کلی
نورین	قابل تعظیم	نوشین	میٹھی، شیریں
نسرین	دو تارے	ناخلہ	نصیحت کرنیوالی
نازش	ناز، فخر	ناجلہ	شریف النفس عورت
نافعہ	نفع حاصل کرنیوالی	نافلہ	عبادت گذار عورت
نجیبہ	نیک، شریف	نسیمہ	ٹھنڈی ہوا
نظیفہ	پاک، پاکیزہ	نعیمہ	انعام، بہشت
نغمہ	اچھی آواز	نقیہ	خالص، پاکیزہ
نویرہ	پھولوں کی کلی	نہیہ	عقل، دانش
نہیلا	خوش وخرم، پرمسرت	نفیسہ	عمدہ، پسندیدہ
ناجیہ	نجات پانیوالی	نادرہ	انوکھی بیش قیمت
ناعمہ	آسودہ حال	ناشکہ	دین دار عورت
نزہت	خوشحالی	نصیبہ	حصہ، قسمت
نابغہ	نہایت سمجھ دار	نغمہ	اچھی آواز
نقیبہ	خبر کرنے والی	نگہت	خوشبو
نازیہ	ناز کرنے والی	ناشیہ	نوجوان عورت
نادیہ	پکارنے والی	نبیرہ	عقلمند عورت
نبیلہ	خوبصورت، سمجھ دار	نجمہ	ستارہ

ندا	پکار، آواز	نشیدہ	راحت
ناسکہ	عابدہ، زاہدہ	نازلہ	ناز کرنے والی
ناہید	زہرہ ستارہ	ناجیہ	نجات پانے والی
نابغہ	نہایت سمجھدار	نازاں	ناز کرنے والی
نازین	دل آویز، نازک	ناصحہ	نصیحت کرنے والی
ناصفہ	خادمہ	ناظمہ	بندوبست کرنے والی
ناظرہ	نظر کرنے والی	ناہیہ	منع کرنے والی
ناقدہ	پرکھنے والی	نائمہ	سونے والی
نادینہ	امید، آس	نازنین	دل آویز
ناصرہ	معاون، مددگار	ناجدہ	مدد دینے والی
نبید	خوشخبری، نوید	نبیدہ	خوشخبری، بشارت
نبالہ	سمجھ، شعور	نزاہت	پاکیزگی
نجیرہ	دلیر، بہادر	نجیدہ	بہادر، جرات مند
نجیہ	ہمراز عورت	ندیمہ	ساتھ بیٹھنے والی
ندرت	نرالا پن	ندما	ہم نشین
ندوہ	مجلس	نزھہ	خوشحالی، آسودگی
نرگس	آنکھ کی مانند پھول	نزہت	آسودگی، خوشحالی
نشاط	لطف، شادمانی	نشاء	دنیا، عالم
نشا	اطمینان	نشاطیہ	جس سے لطف حاصل ہو
نشابہ	تیر چلانے والی	نصرت	حمایت
نصیرہ	معاون، مددگار	نظیرہ	مشابہ، مثل
نعامہ	مسرت، خوشی	نوشا	پرمسرت
نعمانہ	نعمت والی	نگینہ	ایک قیمتی پتھر
نوشابہ	آب حیات	نورین	سمندر کی شہزادی
نوشی	نوشین کا مخفف	نویدہ	خوشخبری دی ہوئی

نہاء	نوخیز، شرارتی	نیلما	نیلی، نیلم جیسی
نیرہ	روشنی دینے والی	نیسا	پاکیزہ، پارسا

و

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
وجاہت	عزت، خوبصورتی	وجاہت النساء، وجاہت کلثوم
وقر	عزت	وقر النساء، وقر عائشہ، وقر حفصہ
وسیم	خوبصورت	وسیم النساء
وقار	بردبار	وقار النساء
وسامت	خوبصورتی، خوبی	وسامت النساء، وسامت رقیہ
وفاقت	صلح، موافقت	وفاقت النساء

نام	معنی	نام	معنی
واصفہ	تعریف کرنیوالی	واعظہ	نصیحت کرنیوالی
وحیدہ	یگانہ	ولیدہ	لونڈی، کمسن بچی
ولایت	ولی ہونا	وثیقہ	عہد و پیمان
واسفہ	شریف، عمدہ	ودیدہ	رفاقت، محبت
ورقہ	پھول کی پتی	وصیفہ	خدمت گار
وسامہ	خوبصورتی	واثقہ	مستحکم، مضبوط
وافیہ	مکمل حق ادا کرنیوالی	وردہ	گلاب کا پھول
وصیلہ	ہر وقت ساتھ رہنے والی	وقیعہ	اہمیت رکھنے والی
وہبیہ	عطا کی ہوئی	ورقا	ٹیالی رنگت والی
واجدہ	وجود پانے والی	وافدہ	پیامبر، قاصدہ

واسفہ	شریف، نیک	واہبہ	بخشنے والی
وارثہ	حق دار	وجیہہ	خوبصورت عورت
ودیعہ	امانت	ورزانہ	مشق کرنے والی
ورقانہ	شفاعت کرنے والی	ورفانہ	سفارش کرنے والی
وسیمہ	حسین، سوہنی	وصیہ	سربراہ
وکیلہ	نائب، کارساز		

ہ

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
ہدایت	رہبری	ہدایت النساء
ہمت	بہادری	ہمت النساء، ہمت عائشہ، ہمت خنساء
ہادیہ	راستہ دکھانیوالی	ہادیۃ النساء
ہزت	خوشی، عیش	ہزت النساء

نام	معنی	نام	معنی
ہما	ایک مبارک پرندہ	ہمدرد	غم خوار
ہادیہ	نیک راستہ دکھانیوالی	ہاجرہ	ہجرت کرنیوالی
ہانیہ	پرمسرت	ہینہ	بردبار، وقار
ہیفا	پتلی کمروالی	ہائمہ	محبت میں متوالی
ہائلہ	زبردست، ڈرانے والی	ہندہ	زلف محبوب کے رخسار کا تل
ہنا	عنایت، بخشش	ہنیہ	پسندیدہ
ہزیرہ	سمجھدار	ہزینہ	خزینہ، ہمیشہ
ہارونہ	قاصدہ، پیامبر	ہائدہ	توبہ کرنے والی
ہمیم	ہلکی بارش	ہنی	خوشگوار

ی

نام	معنی	نام رکھنے کا طریقہ
یوسف	حسین وجمیل	یوسف النساء
یاوری	سہارا	یاور النساء
یزت	خوشی، سروری	یزت النساء
یضیم	نازک جسم والی	یضیم النساء
یاسم	چنبیلی کا پھول	یاسم النساء
یقین	اعتماد، ایمان	یقین النساء

نام	معنی	نام	معنی
یمن	سعادت	یسارت	دولت مندی
یسیرہ	آسان	یاسمین	چنبیلی کا پھول
یاسمون	چنبیلی کا پھول	یاسمہ	چنبیلی کا پھول
یسریٰ	خوشحال	یوسحا	خوبصورت
یمنہ	برکت، سعادت	یاسرہ	رئیس عورت
یشعرہ	فہم وفراست والی	یافرہ دین	مقصد دین ومذہب
یاسرہ	رئیس عورت، امیر	یوسا	حسین، خوبصورت
یاسمین	چنبیلی کا پھول	یافتہ	پائی ہوئی
یسرانہ	خوشحالی، آسانی	یعسوبہ	رہبر، راہنما عورت
یعشیرہ	سمجھدار، دوشیزہ	یعقوبہ	پیچھے آنے والی
یگانہ	تنہا، اکیلا	یگونہ	یکساں، برابر، ایک سا
یمینہ	سیدھی جانب چلنے والی		

بچوں کے متعلق چند آداب کا بیان

یہ امر بہت ہی خیال رکھنے کے قابل ہے کہ بچپن میں جو عادت بھلی یا بری پختہ ہو جاتی ہے وہ عمر بھر نہیں جاتی اس لئے بچپن سے جوان ہونے تک ان باتوں کا ترتیب وار ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ نیک بخت دین دار عورت کا دودھ پلاویں۔ دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔

۲۔ عورتوں کی عادت ہے کہ بچوں کو کہیں سپاہی سے ڈراتی ہیں، کہیں اور ڈراؤنی چیزوں سے سو یہ بری عادت ہے، اس سے بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔

۳۔ بچے کو دودھ پلانے کے لئے اور کھانا کھلانے کے لئے وقت مقرر رکھو کہ وہ تندرست رہے۔

۴۔ اس کو صاف ستھرا رکھو کہ اس سے تندرستی رہتی ہے۔ مگر اس کا بہت بناؤ سنگار مت کرو۔

۵۔ اگر لڑکا ہو اس کے سر پر بال مت بڑھاؤ۔

۶۔ اگر لڑکی ہو اس کو جب تک پردہ میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو جائے زیور مت پہناؤ۔ اس سے ایک تو ان کی جان کو خطرہ ہے، دوسرے بچپن ہی سے زیور کا شوق دل میں ہونا اچھا نہیں۔

۷۔ بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کھانا، کپڑا، پیسہ اور ایسی چیزیں دلوایا کرو، اس طرح کھانے پینے کی چیزیں ان کے بھائی بہنوں کو یا اور بچوں کو تقسیم کرایا کرو تاکہ ان کو سخاوت کی عادت ہو۔ مگر یہ یاد رکھو کہ تم اپنی چیزیں ان کے ہاتھ سے دلوایا کرو۔ خود جو چیز شرع کی رو سے ان ہی کی ہو اس کا دلوانا کسی طرح درست نہیں۔

۸۔ اگر لڑکا ہو سفید کپڑے کی رغبت اس کے دل میں پیدا کرو اور رنگین تکلف کے لباس سے اس کو نفرت دلاؤ کہ ایسے کپڑے لڑکیاں پہنتی ہیں۔ تم ماشاءاللہ مرد ہو، ہمیشہ اس کے سامنے ایسی باتیں کیا کرو۔

۹۔ اگر لڑکی ہو جب بھی زیادہ مانگ چوٹی بہت تکلف کے کپڑوں کی اس کو عادت مت ڈالو۔

۱۰۔ اس کی سب ضدیں پوری مت کرو کہ اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے۔

۱۱۔ چلا کر بولنے سے روکو۔ خاص کر اگر لڑکی ہو تو چلانے پر خوب ڈانٹو ورنہ بڑی ہو کر وہی

عادت ہو جاوے گی۔

۱۲۔ جن بچوں کی عادتیں خراب ہیں یا پڑھنے لکھنے سے بھاگتے ہیں یا تکلف کے کھانے، کپڑے کی عادی ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے ان کے ساتھ کھیلنے سے ان کو بچاؤ۔

۱۳۔ ان باتوں سے ان کو نفرت دلاتی رہو۔ غصہ، جھوٹ بولنا، کسی کو دیکھ کر جلنا یا حرص کرنا، چوری کرنا، چغلی کھانا، خواہ مخواہ اس کو بنانا، بے فائدہ بہت باتیں کرنا، بے بات ہنسنا، دھوکہ دینا، بھلی بری بات کا نہ سوچنا وغیرہ۔ اور جب ان باتوں میں سے کوئی بات ہو جائے تو فوراً اس کو روکو اس پر تنبیہہ کرو۔

۱۴۔ اگر کوئی چیز توڑ پھوڑ دے یا کسی کو مار بیٹھے مناسب تنبیہہ کر دو یا سزا دو تاکہ پھر ایسا نہ کرے۔ ایسی باتوں میں پیار بچے کی عادت کو خراب کر دیتا ہے۔

۱۵۔ صبح سویرے مت سونے دو بلکہ سویرے جاگنے کی عادت ڈالو۔

۱۶۔ جب سات برس کی عمر ہو جاوے تو نماز کی عادت ڈالو اور جب دس سال کو پہنچے تو اسے ترک نماز پر مارو۔

۱۷۔ جب مکتب میں جانے کے قابل ہو جائے تو اول قرآن مجید پڑھواؤ اور جہاں تک ہو سکے دیندار استاذ سے پڑھواؤ۔

۱۸۔ مکتب میں جانے میں کبھی رعایت نہ کرو۔

۱۹۔ کسی کسی وقت ان کو نیک (یا مجاہدین) لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو۔

۲۰۔ ان کو ایسی کتابیں مت دیکھنے دو جن میں عاشقی، معشوقی کی باتیں یا شرع کے خلاف مضمون یا اور بیہودہ قصے یا غزلیں وغیرہ ہوں۔

۲۱۔ ایسی کتابیں پڑھواؤ جن میں دین کی باتیں اور دنیا کی ضروری کاروائی آ جاوے۔

۲۲۔ مکتب سے آ جانے کے بعد کسی قدر دل بہلانے کے لئے اس کو کھیلنے کی اجازت دو تا کہ اس کی طبیعت کند نہ ہو جاوے۔ لیکن کھیل ایسا ہو جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور چوٹ لگنے کا اندیشہ نہ ہو۔

۲۳۔ آتش بازی، باجہ اور فضول چیزیں لینے کے لئے پیسے مت دو۔ اسی طرح کے کھیل

دکھلانے کی عادت بھی مت ڈالو۔

۲۴۔ اولاد کو ضرور کوئی ایسا ہنر سکھادو جس سے بقدر ضرورت بھی چار پیسے حاصل کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا گذارہ کر سکے۔

۲۶۔ لڑکیوں کو اتنا لکھنا پڑھنا سکھادو کہ ضروری خط اور گھر کا حساب کتاب لکھ سکیں۔

۲۷۔ لڑکیوں کو تاکید کرو کہ جو زیور تمہارے بدن پر ہے رات کو سونے سے پہلے اور صبح کو جب اٹھو دیکھ بھال لیا کرو۔

۲۸۔ لڑکیوں سے کہو کہ جو کام کھانے پکانے سینے پرونے کپڑے رنگنے چیز بننے کا گھر میں ہوا کرے اس میں غور کر کے دیکھا کرو کہ کیسے رہا ہے۔

۲۹۔ جب بچے سے کوئی بات خوبی کی ظاہر ہو اس پر خوب شاباش دو، پیار کرو بلکہ اس کو کچھ انعام دو تا کہ اس کا دل بڑھے اور جب اس کی کوئی بری بات دیکھو اول تنہائی میں اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو بری بات ہے دیکھنے والے دل میں کیا کہتے ہونگے اور جس جس کو خبر ہوگی وہ دل میں کیا کہے گا۔ خبردار پھر ایسے مت کرنا نیک بخت لڑکے ایسا نہیں کرتے اور پھر وہی کام کرلے تو مناسب سزا دو۔

۳۰۔ ماں کو چاہئے کہ بچہ کو باپ سے ڈراتی رہے۔

۳۱۔ کوئی کام محنت کا اس کے ذمہ مقرر کردو جس سے صحت اور ہمت رہے، سستی نہ آنے پائے۔

۳۲۔ چلنے میں تاکید کرو کہ بہت جلدی نہ چلے اور نگاہ اوپر اٹھا کر نہ چلے۔

۳۳۔ اس کو عاجزی اختیار کرنے کی عادت ڈالو زبان سے چال سے برتاؤ سے شیخی نہ بکھارنے پاوے یہاں تک کہ اپنے ہم عمر بچوں میں بیٹھ کر اپنے کپڑے یا مکان یا خاندان یا کتاب و قلم ودوات تختی تک کی تعریف نہ کرنے پاوے۔

۳۴۔ کبھی کبھی اس کو تھوڑے بہت پیسے دیا کرو کہ اپنی مرضی کے موافق خرچ کیا کرے مگر اس کو یہ عادت ڈالو کہ کوئی چیز تم سے چھپا کر نہ خریدے۔

۳۵۔ اس کو کھانے کا طریقہ اور محفل میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھلاؤ۔ (بہشتی زیور حصہ چہارم)

۳۶۔ کسی بچہ یا شاگرد کو سزا دینا ہو تو موٹی لکڑی یا لات گھونسہ سے مت مارو۔ اللہ بچائے

نازک جگہ چوٹ لگ جائے تو لینے کے دینے پڑ جاویں اور چہرے اور سر پر بھی مت مارو اور تین ڈنڈوں سے زیادہ بھی مت مارو۔

۳۷۔ پڑھنے والے بچوں کو کوئی چیز دماغ کی طاقت کی ہمیشہ کھانے کے لئے دیا کرو۔ (بہشتی زیور حصہ دہم)

۳۸۔ بچوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے۔ بعض ماں باپ اپنی اولاد کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں گو کہ ان کا دل یہ نہیں چاہتا، مگر ان کے عمل اور برتاؤ کی وجہ سے ایسا خود بخود ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ یہ بعض بچہ کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں جس کی بناء پر ان کے آپس میں ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو کر نفرت کو جنم دیتا ہے اس طرح وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کے لئے ضروری ہے کہ اولاد کے مابین برابری کا سلوک کریں حتیٰ کہ بوسہ لینے اور پیار کرنے میں بھی ان اصول کی پابندی لازمی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لڑکے کو لڑکی پر صرف جنس کے اختلاف کے سبب سے ترجیح نہ دیں۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ جس کی لڑکی ہو اور وہ اس کو زندہ باقی رہنے دے اور اس کی بے توقیری نہ کرے اور نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دے تو خدا اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ (ابوداؤد ص ۳۴۴۔ ج ۲، کتاب الادب)

۳۹۔ باہم لڑکوں میں بھی چھوٹے اور بڑے کے حقوق کا امتیاز شریعت محمدیؐ میں قائم نہیں کہ ہر ایک کو ان میں سے اپنے باپ کے ساتھ برابری کی نسبت ہے۔ یہاں تک کہ اگر لڑکوں میں سے کسی ایک کو بلا وجہ کوئی ایسا عطیہ دیا جائے جو دوسرے کو نہ ملا ہو تو آنحضرت ﷺ نے ایسے طرز عمل کو ناپسند فرمایا ہے۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کو ایک غلام ہبہ کیا اور چاہا کہ اس پر آنحضرت ﷺ کی شہادت ہو، انہوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی خواہش ظاہر کی، دریافت کیا کہ کیا تم نے اپنے سب بچوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، فرمایا تو میں ایسے ظالمانہ عطیہ پر گواہ نہ بنوں گا۔ (ابوداؤد ص ۱۴۴، ج ۱، باب فی الرجل، بفضل بعض ولدہ فی النحل۔ کتاب البیوع)

(۴۰) اس سے اس قانون کی جو اسرائیلیوں، رومیوں، ہندوؤں اور دوسری پرانی قوموں میں رائج تھا اور اب بھی ہے کہ صرف بڑا لڑکا جائداد کا مالک بنے، یا اس کا کوئی ترجیحی حق ہو، صلاح کردی گئی اور باپ کی نظر میں اس کے تمام لڑکوں کو برابر کا منصب حاصل ہوا اور چھوٹوں پر ظلم کا جو مسلسل قانونی طریقہ جاری تھا اس کا خاتمہ ہوا۔ (سیرت النبی ﷺ جلد ششم)

بچوں سے متعلق چند احتیاطی تدابیر

۱۔ چھوٹے بچوں کو کنویں پر مت چڑھنے دو، بلکہ اگر گھر میں کنواں ہو تو اس پر تختہ لگا کر ہر وقت قفل لگائے رکھو اور ان کو لوٹا دیکر پانی لانے کے واسطے کبھی مت بھیجو شاید وہاں جا کر خود ہی کنویں سے ڈول کھینچنے لگیں۔

۲۔ ہر دو روز بچے کا ہاتھ، منہ، گلا، کان چڈھے (یعنی جنگا سے) وغیرہ گیلے کپڑے سے خوب صاف کر دیا کریں، میل جمنے سے گوشت گل کر زخم پڑ جاتے ہیں۔

۳۔ پیشاب یا پاخانہ کرے فوراً پانی سے طہارت کر دیا کریں خالی چیتھڑے سے پوچھنے پر بس نہ کیا کریں، اس سے بچے کے بدن میں خارش اور سوزش ہو جاتی ہے۔ اگر موسم سرد ہو تو پانی نیم گرم کر لیں۔

۴۔ لڑکوں کو تعلیم کریں کہ سب کے سامنے خاص کر لڑکیوں یا عورتوں کے سامنے ڈھیلے سے استنجا نہ سکھایا کریں۔

۵۔ بچے کو الگ سلایا کریں، پاس سلانے میں یہ ڈر ہے کہ شاید سوتے میں کہیں کروٹ تلے دب جاوے۔

۶۔ جھولے کی عادت بچے کو نہ ڈالیں، کیونکہ جھولا ہر جگہ نہیں ملتا اور بہت گود میں بھی نہ رکھیں اس سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔

۷۔ چھوٹے بچے کو عادت ڈالیں کہ سب کے پاس آجایا کریں ایک آدمی کے پاس زیادہ مانوس ہو جانے سے اگر وہ آدمی مرجائے یا کہیں اور چلا جائے تو غمزدہ ہو جاتا ہے۔

۸۔ جب بچہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اس کو ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالیں اور کھانے سے پہلے

ہاتھ دھلوایا کریں اور داہنے ہاتھ سے کھانا سکھلا دیں اور اس کو کم کھانے کی عادت ڈالیں تا کہ بیماری اور حرص سے بچا رہے۔ بچوں کو ماں باپ بلکہ دادا کا بھی نام یاد کرا دیں۔

۹۔ آوارہ قسم کے بچوں کے ساتھ نہ کھیلنے دیں۔ زیادہ بچوں میں بھی نہ کھیلنے دیں، گلیوں، سڑکوں میں نہ کھیلنے دیں۔ بازار وغیرہ میں اس کو نہ لئے پھریں۔

۱۰۔ بچے کو عادت ڈالیں کے بجز اپنے بزرگوں کے اور کسی سے کوئی چیز نہ مانگے اور نہ بغیر اجازت کے کسی کی دی ہوئی چیز لے۔

۱۱۔ بچے کو بہت لاڈ پیار نہ کریں ورنہ ابتر ہو جائے گا۔

۱۲۔ بچے کو منجن، مسواک کی عادت ڈالیں۔

۱۳۔ پڑھنے میں بھی بچے پر بہت سخت محنت نہ ڈالیں، شروع میں ایک گھنٹہ پڑھنے کا مقرر کریں، پھر دو گھنٹے، پھر تین گھنٹے۔ اسی طرح اس کی طاقت اور سہارے کے موافق محنت لیتے رہیں۔

۱۴۔ سوائے معمولی چھٹیوں کے بدون سخت ضرورت بیماری کے بار بار چھٹی نہ دلوائیں کہ اس سے طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے۔

۱۵۔ جہاں تک میسر ہو جو علم جو فن سکھلا دیں ایسے آدمی سے سکھلا دیں جو اس میں پورا عالم اور کامل ماہر ہو۔ بعض آدمی سستا معلم رکھ کر اس سے تعلیم دلواتے ہیں شروع ہی سے طریقہ بگڑ جاتا ہے پھر درستگی مشکل ہو جاتی ہے۔

۱۷۔ بچوں کو خصوصاً لڑکی کو کھانا پکانا اور سینا ضرور سکھائیں۔

۱۸۔ شادی میں دولہا دلہن کی عمر میں زیادہ فرق ہونا بہت سی خرابیوں کا باعث ہے۔

۱۹۔ لڑکیوں کی شادی میں زیادہ یہ بات دیکھو کہ داماد کے مزاج میں خدا کا خوف اور دینداری ہو ایسا شخص اپنی اہلیہ کو ہمیشہ آرام سے رکھتا ہے۔ اگر مال و دولت بہت کچھ ہوا اور دین نہ ہوا تو وہ شخص اپنی بیوی کے حقوق کو حق ہی نہ پہچانے گا اور اس کے ساتھ وفاداری نہ کرے گا۔ بلکہ روپیہ پیسہ بھی نہ دے گا۔ اگر دیا بھی تو اس سے احسان جتلائے گا۔

۲۱۔ اپنے دولڑکوں یا دولڑکیوں کی شادی جہاں تک ہو سکے ایک دم مت کرو کیوں بہوؤں

ضرور فرق ہوگا، دامادوں میں ضرور فرق ہوگا۔ خود لڑکوں اور لڑکیوں کی صورت شکل میں کپڑے کی سجاوٹ میں، نور صبور میں، حیاوشرم میں ضرور فرق ہوگا اور بھی بہت باتوں میں فرق ہوجاتا ہے اور لوگوں کی عادت ہے ذکر مذکور کرنے کی اور ایک گھٹانے اور دوسرے کو بڑھانے کی۔ اس سے ناحق دوسرے کا جی برا ہوتا ہے۔ (بہشتی زیور حصہ دہم)

بچوں کا ختنہ کرانا اسلامی شعار اور فریضہ ہے

(۱) بچوں کا ختنہ کرانا اسلامی شعار اور فریضہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ لڑکے کا ختنہ ساتویں روز کرایا جائے، اگر مجبوری کی وجہ سے ایسا نہ کرسکے تو سات سال کی عمر کے اندر اندر کروالینا چاہئے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بارہ برس کی عمر سے پہلے پہلے کرالینا چاہئے ورنہ گناہ ہوگا۔

(۲) آج کل رسم ختان بڑی دھوم دھام سے ادا کی جاتی ہے، اس میں ایک تو روپیہ کافی ضائع ہوتا ہے دوسرے مذہبی احکام کی خلاف ورزی۔ بعض مسلمان لڑکیوں کے نام اور کان چھید کراس میں زیور ڈالتے ہیں اور اسے بھی ایک اہم تقریب قرار دیتے ہیں اور اس پر بھی کافی روپیہ صرف کرتے ہیں۔ یہ تمام طریقے اور رسوم غیر اسلامی ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی فطرت و جبلت کے اعتبار سے مسلمان پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے **فطرت اللّٰہ التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللّٰہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لایعلمون** (سب) اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس (قابلیت) پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہئے پس سیدھا (راستہ) دین (کا) یہی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (ترجمہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ)

یعنی کوئی بچہ پیدا ہوتے وقت اپنے ساتھ تو گناہ لے کر نہیں آتا۔ ہر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اس کے ماں باپ بچپن ہی سے اسے جس راستہ اور جس طریقہ سے آشنا کر

کراتے ہیں اس کو اپنے لئے وہ راہ حیات تصور کر کے اس پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو مذہب اسلام اور سیدھے راستہ پر لگا دیں تو وہ بلا تردد چلنا شروع کر دیتا ہے اور اگر بدقسمتی سے وہ کفر و شرک کے یا یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کے ماحول میں پرورش کریں گے تو اس پر غیر اسلامی اثرات پڑنے لگ جائیں تو وہ اپنی فطری صلاحیتیں کھو کر انہی کے رنگ میں ڈوب جاتا ہے۔

انہی وجوہات کی بناء پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بچوں کو پیدائش کے دن سے ہی مذہبی فضا میں رکھا جائے تاکہ فطرت سلیم پر باقی رہے اور کسی غیر فطری افکار و نظریات کا شکار ہو کر راہ راست سے نہ ہٹ جائے۔ اس وقت مسلمان ماں باپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی نوخیز اولاد کے روبرو بات چیت میں اور چھوٹے بڑے کام میں اسلامی طرز زندگی کا مظاہرہ کرتے رہیں تاکہ اپنی اولاد پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے۔ اس طرح لڑکے اور لڑکیاں عہد طفلی سے لے کر سن بلوغ تک کا یہ دور ختم کر کے جب بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد خود اچھے اور برے کاموں کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔

والدین کے لئے ایک اہم ہدایت

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو چاہئے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو اچھی تربیت دے۔ پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے اگر شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی (اپنی غفلت اور بے پروائی سے) اس کی شادی کا بندوبست نہ کیا اور وہ اس کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ (بھی) اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ (معارف الحدیث بحوالہ بیہقی فی شعب الایمان)

افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے رسم و رواج کی تقلید میں نکاح و شادی کو بے حد بوجھل بنا لیا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں تو یہ کام اتنا ہلکا پھلکا ہو جائے جتنا ایک مسلمان کے لئے جمعہ کی نماز کا ادا کرنا اور پھر نکاح و شادی میں وہ برکتیں حاصل ہوں جن سے ہم بالکل محروم ہیں۔ (اقتباسات معارف الحدیث)

(۵) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں (کہ جن کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے) (i) صدقہ جاریہ، (ii) وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، (iii) اولاد نیک وصالح جو اس کے لئے دعا گو رہے۔ (مسلم)

(۶) حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنے صاحبزادے) ابراہیم رضی اللہ عنہ کو لیا اور انہیں بوسہ دیا اور ناک لگائی۔ (بخاری کتاب الادب)

(۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپؐ فرمارہے تھے کہ یہ دونوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ (بخاری)

(۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے یا بندی پر اللہ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا (اور ذمہ داری کو پوا رکیا) تو یہ بیٹیاں ان کے لئے جہنم سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ (بخاری و مسلم)

(۹) حضرت ابوقتادہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور امامہ بنت ابی العاصؓ (جو بچی تھی) آپؐ کے شانہ مبارک پر تھیں پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جب آپ رکوع کرتے تو انہیں آہستہ سے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ (بخاری کتاب الادب)

حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے جن کی شادی آپؐ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینبؓ سے ہوئی، انہیں کی بیٹی کا نام امامہ تھا۔ امامہ سے آپؐ بہت محبت فرماتے تھے اور امامہ آپؐ کی نواسی بھی آپؐ سے بہت مانوس تھی۔ (مظاہر حق)

ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں ایک زریں ہار آیا، تمام ازواج مطہرات اس وقت جمع تھیں اور امامہؓ گھر کے ایک گوشہ میں مٹی سے کھیل رہی تھیں۔

آپؐ نے فرمایا یہ ہار میں اپنے محبوب ترین اہل کو دوں گا سب کو گمان تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن آپؐ نے امامہؓ کو بلایا اور اول ان کی آنکھوں کو اپنے

دست مبارک سے پونچھا وہ ہار انکے گلے میں ڈالا۔ (سیرۃ المصطفی بحوالہ ابن سعد، مسند احمد سند حسن عن عائشہ)

بہترین والدین

(۱۰) بہترین والدین وہی ہیں جو اپنی اولاد کو علم دین سے آشنا کرائیں اور ان کی صحیح تربیت کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ (ترمذی)

بہترین اولاد

(۱۱) بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کے وفات پا جانے کے بعد ان کے حق میں دعا مغفرت کرتی رہے اور والدین کے دستوں سے حسن سلوک کرتی رہے۔

(۱۲) جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار اور والدین خوشی مناتے ہیں اور وہ خود رونے لگتا ہے۔ لیکن جب یہی بچہ عمر طبعی کو پہنچ کر مر جائے تو اس کی حالت یہ ہو کہ وہ ہنستا ہوا اپنے رب ذوالجلال کے پاس جائے اور اس کے رشتہ دار اور دیگر ایک عالم اس کی جدائی میں روتا ہوا رہ جائے۔

ایسے عظیم الشان مستقبل کے لئے والد کو چاہئے کہ رزق حلال سے اولاد کی پرورش کرے، غلط ماحول، ٹی وی اور گانے وغیرہ سے دور رکھے، دینی تربیت اور نیک لوگ اولیاء کرام کی صحبت دے، والدہ کو چاہئے کہ حتی الوسع بچوں کو پاک وصاف اور باوضو ہو کر دودھ یا کھانا وغیرہ دے۔ نیز والدین کو چاہئے کہ ساتھ ساتھ اولاد کی صلاح وفلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں بھی کریں۔

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوٰجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین۔

www.besturdubooks.wordpress.com